

امام اہلسنت امام احمد مُحَمَّد ث ب瑞لوی رحمۃ اللہ علیہ کے
بارے میں پھیلائے جانے والے مغالطوں کا ردِ بلیغ

نَقَابُ كُشَائِي	:	نَامَ كِتَابٍ
مولانا شہزاد احمد نقشبندی	:	مَوْاْفٍ
صفر المظفر ۱۴۳۱ھ / فروری ۲۰۱۰ء	:	سَنَ اشاعت
۲۸۰۰	:	تعداد اشاعت
جمعیت اشاعت اہلسنت (پاکستان)	:	ناشر

نور مسجد، کاغذی بازار، میٹھا در، کراچی، فون: 32439799

خوشخبری: یہ رسالہ website: www.ishaateislam.net پر موجود ہے۔

پیش لفظ

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر آج تک امت مسلمہ مذهب اہلسنت و جماعت پر کاربندری ہے، لیکن اس خطہ بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کے آتے ہی اس کے بل بوتے پر فرقہ وہابیہ کا پرچار شروع ہوا جس نے تمام اکابرین اسلام کی خدمات کو مشکوک بنانے کی بھی کوشش کیا اور ان کے عقائد و نظریات کو شرکیہ قرار دے کر گویا پوری امت کو مشکر قرار دے دیا، حتیٰ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کی توبین و تعمیص میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی جس پر ان کی کتب تقویۃ الایمان، صراط مستقیم کی عبارات شاہد ہیں، جیسے ہی کہیں سے ان کو عظمت و شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کے اظہار کی خوبی محسوس ہوتی ہے فوراً تقریر و تحریر سے اس کے خلاف روڈ کے لئے کمر بستہ ہوجاتے ہیں، اسی طرح انہوں نے ہم اہلسنت و جماعت کے مقتدی، امام احمد رضا محدث بریلوی پر بھی طرح کی الزام تراشیاں کیں اور ان کے بارے میں لوگوں کو گراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

مؤلف نے اس کتاب میں وہابیہ کی ان غلط باتوں کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کی ہے جو انہوں نے امام اہلسنت امام احمد رضا محدث بریلوی کی طرف منسوب کی ہیں۔ جمعیت اشاعت اہلسنت اس عوام کے لئے مفید جانتے ہوئے اپنے مفت سلسلہ اشاعت کے 190 نمبر پر شائع کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مصنف اور ارکین ادارہ کی اس سعی کو قبول فرمائے۔

محمد عرفان المانی

نَقَابُ كُشَائِي

تالیف۔

مولانا شہزاد احمد نقشبندی

ناشر

جمعیت اشاعت اہلسنت (پاکستان)

نور مسجد، کاغذی بازار، میٹھا در، کراچی، فون: 32439799

6	نقد کشائی	6
20	”تجذیر الناس“ کی موافقت سوائے عبدالحی کے کسی نہیں کی	-۲۰
20	”تجذیر الناس“ اور مرزائیوں کے عقائد میں موافقت	-۲۱
21	ضروریاتِ دین میں تاویل کا حکم	-۲۲
21	تاویل کی قسمیں	-۲۳
21	ضروریاتِ دین کے منکر کا حکم	-۲۴
22	”خاتم الانبیاء“ کا معنی آخری نبی ہونے پر امت کا اجماع ہے	-۲۵
22	”تجذیر الناس“ کی دوسری ممتاز عبارت	-۲۶
22	”تجذیر الناس“ کی تیسری ممتاز عبارت	-۲۷
23	مرزا نیوں کا عقیدہ	-۲۸
23	”تجذیر الناس“ کی چوتھی ممتاز عبارت	-۲۹
23	دیوبندیوں کا ایک الزام اور اس کا جواب	-۳۰
24	براہین قاطعہ کی کفریہ عبارت	-۳۱
25	”حفظ الایمان“ کی کفریہ عبارت	-۳۲
26	تحانوی کے ڈکلاء کی فاسد تاویلیں	-۳۳
27	تحانوی کے گفر پرہر	-۳۴
28	ایک مغالطہ اور اس کا رد	-۳۵
28	کلمہ گفر کہنے والے کے قصد وارادہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا	-۳۶
28	صرتھ کفر کے مرتكب کا حکم	-۳۷
29	اکابرین دیوبندی گفریہ عبارات پر اطلاع کے بعد ان کی تکفیر فرض تھی	-۳۸
30	رسول اللہ ﷺ پرست و شتم اور تقصیص کرنے والے کا حکم	-۳۹
30	گمراہ عقیدہ والے کی تحسین کرنے والے کا حکم	-۴۰
31	علمائے امت پر فرض ہے کہ وہ شرعاً کافر پر گفر کا حکم لگائیں	-۴۱
31	اعلیٰ حضرت تکفیر کے معااملے میں انتہائی محتاط تھے	-۴۲
32	اعلیٰ حضرت پرعبدالحی لکھنوی کا ایک اور الزام اور اس کا جواب	-۴۳
33	مدغی لاکھ پر بھاری ہی گواہی تیری	-۴۴

5	نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
۱	کیا امام اہلسنت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شرعی تھانوی ہم سبق تھے؟	کیا امام اہلسنت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شرعی تھانوی ہم سبق تھے؟	6
۲	امام احمد رضا کا یوم ولادت	امام احمد رضا کا یوم ولادت	6
۳	شرعی تھانوی کا یوم پیدائش	شرعی تھانوی کا یوم پیدائش	7
۴	امام احمد رضا کا حصول علم	امام احمد رضا کا حصول علم	7
۵	شرعی تھانوی کا حصول علم	شرعی تھانوی کا حصول علم	7
۶	امام احمد رضا کے اساتذہ	امام احمد رضا کے اساتذہ	8
۷	شرعی تھانوی کے اساتذہ	شرعی تھانوی کے اساتذہ	8
۸	جس وقت امام احمد رضا مفتی بن چکے تھے اُس وقت شرعی تھانوی کی عمر	جس وقت امام احمد رضا مفتی بن چکا تھا اُس وقت امام احمد رضا کا علمی مقام	9
۹	جس وقت شرعی تھانوی ایک عام مولوی بن چکا تھا اُس وقت امام احمد رضا کا علمی مقام	جس وقت شرعی تھانوی ایک عام مولوی بن چکا تھا اُس وقت امام احمد رضا کا علمی مقام	9
۱۰	جس وقت امام احمد رضا محدث افتاء پر فائز ہو چکے تھے اُس وقت شرعی تھانوی کی حرکتیں	جس وقت امام احمد رضا محدث افتاء پر فائز ہو چکے تھے اُس وقت شرعی تھانوی کی حرکتیں	10
۱۱	کیا امام احمد رضا نے بریلی میں تکفیر کی مشین لگا کر گئی تھی؟	کیا امام احمد رضا نے بریلی میں تکفیر کی مشین لگا کر گئی تھی؟	15
۱۲	عبدالرزاق لیخ آبادی کی ہر زہ سرائی	عبدالرزاق لیخ آبادی کی ہر زہ سرائی	15
۱۳	اساعیل دہلوی ”تفویہ الایمان“ کی زد میں	اساعیل دہلوی ”تفویہ الایمان“ کی زد میں	15
۱۴	خاندان ولی اللہی کا فرد ہونا اساعیل دہلوی کے لئے نافع نہیں	خاندان ولی اللہی کا فرد ہونا اساعیل دہلوی کے لئے نافع نہیں	16
۱۵	حسین احمد ثانیوی کا الزام	حسین احمد ثانیوی کا الزام	17
۱۶	عبدالحی لکھنوی کا الزام	عبدالحی لکھنوی کا الزام	17
۱۷	”تفویہ الایمان“ مسلمانوں کوڑانے کے لئے لکھی گئی	”تفویہ الایمان“ مسلمانوں کوڑانے کے لئے لکھی گئی	17
۱۸	رئیس احمد جعفری کی علمی خیانت	رئیس احمد جعفری کی علمی خیانت	18
۱۹	”تجذیر الناس“ کی پہلی ممتاز عبارت	”تجذیر الناس“ کی پہلی ممتاز عبارت	19

فهرست مضمایں

وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِينَ يُعَارِضُونَ مُعَانِدِيْهِ. أَمَّا بَعْدُ
**کیا امام اہلسنت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ
 اور شرعی تھانوی ہم سبق تھے؟**

آجکل دیوبندی حضرات سید ہے سادے لوگوں میں بڑے زوروں سے یہ پروپیگنڈہ پھیلانے میں مصروف ہیں کہ دیوبندیوں اور بریلویوں (یعنی اہل سنت و جماعت) کے درمیان بنیادی طور پر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے بلکہ بریلویوں کے امام احمد رضا اور ہمارے حکیم الامت شرعی تھانوی بچپن میں ایک ساتھ مدرسہ دیوبند میں پڑھتے تھے، دونوں کے استاد ایک ہی تھے اور دونوں ہم سبق بھی تھے۔ ہوالیوں کہ دونوں کاسی بات پاپس میں جھگڑا ہو گیا جس کے نتیجے میں بریلویوں کے امام احمد رضا مدرسہ دیوبند چھوڑ کر بریلوی چلے آئے اور وہاں اپنا مدرسہ کھول لیا اور علمائے دیوبند کی تکفیر شروع کر دی۔ دیوبندیوں کے اس پروپیگنڈے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ ان گُفریٰ عبارات سے ہٹائی جائے جو ان کے اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں اور ان کو یہ بات باور کرائی جائے کہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اکابرین کی جو تکفیر کی ہے وہ ذاتی دشنی کی بنا پر کی ہے۔ لیکن دیوبندی حضرات شاہیدیہ بات بھول جاتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ درج ذیل سطور میں ان کے اسی پروپیگنڈے کا پول کھولا گیا ہے تاکہ آئندہ ان لوگوں کو اس طرح کا جھوٹ بولنے کی جرأت نہ ہو۔

امام احمد رضا کا یوم ولادت

اعلیٰ حضرت کی ولادت ۱۹۱۲ء ستمبٹ ۲۷ محرم الحرام ۱۸۵۶ء،
 جیجھ سدی ۱۴۱۲ء سمت کو ہوئی۔ (مصطفیٰ رضا خان بریلوی، مولانا، مفتی: ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت حصہ اول صفحہ نمبر ۱ حامد اینڈ کمپنی لاہور)
 اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا ظفیر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”ولادت با سعادت
 اعلیٰ حضرت امام اہلسنت، مجدد مائتھا صاحرہ، مولید ملک طاہرہ مولانا شاہ محمد احمد رضا خان صاحب
 کی آپ کے شہر بریلوی شریف محلہ جسولی میں، کہ پہلے وہی آپ کا آبائی مکان اور حضرت جد امجد

- | | |
|----|---|
| 34 | علمائے دیوبند کے تکفیری بم |
| 37 | کیا امام احمد رضا نے بدعتات کو فروغ دیا ہے؟ |
| 39 | سبحہ تخطیبی |
| 39 | مزار کا طواف |
| 40 | میت کے گھر دعوت |
| 41 | بلند آواز سے قرآن کی تلاوت |
| 41 | جوتا پہننے ہوئے کھانا کھانے کا حکم |
| 41 | درود شریف کی بجائی مہمل الفاظ لکھنا |
| 42 | پچھے کے سر پر کسی ولی کے نام کی چوٹی رکھنا |
| 42 | قبر پر عدو لو بان سلگانا |
| 42 | قبر پر چراغ جلانا |
| 42 | قبر پر نماز پڑھنا |
| 42 | کاج کے وقت ڈھول باجے کا حکم |
| 43 | تعزیہ کا حکم |
| 44 | حرم کو روٹیاں لانا نابیہودہ رسم ہے |
| 44 | اذان میں اضافہ کا حکم |
| 45 | بزرگان دین کی تصاویر کا حکم |
| 45 | مزارات پر عورتوں کی حاضری |
| 46 | ایامِ وبا میں بکرے کی کھال دفن کرنا |
| 46 | مردے کے ساتھ مٹھائی لے جانا |
| 47 | پیر سے پرده اور بے پرده بیعت کا حکم |
| 47 | مدئی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری |

الحمد لله والصلوة والسلام على سيد القahرين على عدوه

نقاٽ کشائی

9

مولانا شاہ رضا علی خان صاحب قدس سرہ کا قیام تھا، اشوال المکرم ۲۷۲۱ھ بروز شنبہ وقت ظہر مطابق ۱۲ جون ۱۸۵۶ء موافق ۱۹۱۳ء جیشہ سدی سمت کو ہوئی۔ (ظفر الدین بھاری، مولانا: حیات اعلیٰ حضرت جلد اول صفحہ ۱۰۲ کشمیر انٹرنسنل پبلیشورز لاہور)

شرفعی تھانوی کا یوم پیدائش

شرفعی تھانوی کی پیدائش ۵ ربیع الثانی ۱۸۸۰ھ کو چہارشنبہ کے دن بوقت صبح صادق ہوئی۔ (عزیز الرحمن مجذوب، مولوی: اشرف السواعج جلد اول صفحہ ۴ ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان)

امام احمد رضا کا حصول علم

امام احمد رضا کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بھاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”اعلیٰ حضرت کے ابتدائی کتابوں سے حضور فارغ ہوئے، تو تمام درسیات کی تکمیل اپنے والد ماجد حضرت مولانا مولوی نقی علی خان صاحب قادری برکاتی متولد ۱۲۲۲ھ متوفی ۱۲۹۷ھ سے تمام فرمائی اور نئیہ سال دس مہینہ کی عمر شریف میں ۱۸۸۲ء میں تمام درسیات سے فراغ پایا۔“ (حیات اعلیٰ حضرت جلد اول صفحہ ۱۱۴)

شرفعی تھانوی کا حصول علم

حضرت والا نے قرآن شریف زیادہ تر حافظ حسین علی صاحب مرحوم سے حفظ کیا جو، مل کے باشندہ تھے۔ بالکل ابتدائی فارسی میرٹھ میں مختلف استادوں سے پڑھی تھی لیکن وہاں کے استادوں کے اب نام بھی یاد نہیں رہے۔ پھر تھانہ بھومن میں فارسی کی متوسطات حضرت مولانا محمد صاحب سے پڑھیں اور ابتدائی کتب ابو الفضل تک اپنے ماموں واجد علی صاحب سے پڑھیں جو ادب فارسی کے استاد کامل تھے پھر تھصیل عربی کے لئے دیوبندی شریف لے گئے وہاں بقیہ کتب فارسی مولانا منغعت علی صاحب دیوبندی سے پڑھیں۔ یعنی پیش رقعہ، تصانیف عربی اور سکندر نامہ۔ (اشرف السواعج جلد اول صفحہ ۵۶)

عربی کی پوری تکمیل دیوبندی میں فرمائی اور صرف ۱۹۱۹ء میں ۲۰ سال ہی کی عمر میں بغسلہ تعالیٰ فارغ التھصیل ہو گئے تھے۔ مدرسہ دیوبند میں قریباً پانچ سال بدلسلسلہ طالب علمی رہنا ہوا۔ آخر ذیقعده ۱۲۹۵ھ میں وہاں داخل ہوئے اور شروع ۱۳۰۳ھ میں فارغ التھصیل ہو گئے۔ عربی کی

10

نقاب کشائی

ابتدائی کتابیں اپنے وطن تھانہ بھومن میں حضرت مولانا فتح محمد صاحب سے پڑھیں اور دیوبند پہنچ کر ”مکملہ شریف“، ”محض المعنی“، ”نور الانوار“ اور ”ملاحسن“ شروع کی تھیں۔ (اشرف السواعج جلد اول صفحہ ۵۷)

امام احمد رضا کے اساتذہ

اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بھاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”اعلیٰ حضرت کے اساتذہ کی فہرست بہت مختصر ہے۔ حضرت والد ماجد صاحب قدس سرہ العزیز کے علاوہ پنج تن پاک کے عُشاق صرف یہ پیش نفوس قدسیہ ہیں۔ (۱) اعلیٰ حضرت کے وہ استاد جنہوں نے ابتدائی کتابیں پڑھائیں۔ (۲) جناب مرتضی غلام قادر بیگ صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳) جناب مولانا عبدالعلی صاحب را پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ (۴) حضرت سلالہ خاندان برکاتیہ سید شاہ ابو الحسین احمد نوری قدس اللہ سرہ العزیز۔ (۵) اور والد ماجد۔ پیر و مرشد قدس ست اسرار، ہم کوشال کر کے چھ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں۔ ان چھ حضرات کے علاوہ حضور نے کسی کے سامنے زانوئے ادب تھیں کیا۔ مگر خداوند عالم نے محض اپنے فضل و کرم اور آپ کی محنت و خداداد ہانت کی وجہ سے اتنے علوم و فنون کا جامع بنایا کہ پچاس فنون میں حضور نے تقنیات فرمائیں۔“ (حیات اعلیٰ حضرت جلد اول صفحہ ۱۱۵)

اعلیٰ حضرت نے مندرجہ ذیل ۲۲ علوم و فنون اپنے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ الرحمۃ سے حاصل کئے، ”علم قرآن، علم حدیث، اصول حدیث، فقہ، جملہ مذاہب، اصول فقہ، جدال، تفسیر، عقائد، کلام، نحو، صرف، معانی، بیان، بدیع، منطق، مناظرہ، فلسفہ، تکمیل، بیت، حساب، ہندسہ“ حضرت شاہ آلی رسول (۱۲۹۷ھ-۱۸۷۶ء) شیخ احمد بن زینی دحلان مکی (۱۲۹۹ھ-۱۸۸۱ء) شیخ عبد الرحمن مکی (۱۳۰۲ھ-۱۸۸۳ء) شیخ حسین بن صالح مکی (۱۳۰۲ھ-۱۸۸۳ء) شیخ ابو الحسین احمد النوری (۱۳۲۲ھ-۱۹۰۶ء) علیہم الرحمۃ سے بھی استفادہ کیا اور مندرجہ ذیل دس علوم و فنون حاصل کئے، ”قراءت، تجوید، تصوّف، سلوک، اخلاق، اسماء الرجال، سیر، تاریخ، لغت، ادب“ مندرجہ ذیل ۱۲ علوم و فنون ذاتی مطالعے اور بصیرت سے حاصل کئے، ”ارثما طبقی، جبر و مقابله، حساب سینی، لوگاز عات، توثیق، مناظر و مرایا، اکر، زیجات، مثلث کروی، مثلث مسطّح،

کے فتاویٰ اور جالالت علمی کے ڈنکے بجھتے تھے۔ ۱۳۰۰ء تک آپ کی تصانیف کی ایک مختصر سی فہرست اور سن تالیف درج کئے جاتے ہیں، (۱) ضوء النہایہ فی اعلام الحمد والهدایۃ ۱۲۸۵ھ (۲) حل خطاط الخطط ۱۲۸۵ھ (۳) السعی المشکور فی ابداء الحق المهجور ۱۲۹۵ھ (۴) معتبر الطالب فی شیون ابی طالب ۱۲۹۴ھ (۵) النیرۃ الوضیۃ شرح الجوهرۃ المضیۃ ۱۲۹۵ھ (۶) اطائب الأکسیر فی علم التکسیر ۱۲۹۷ھ (۷) نفی الفی عن استئنار بنورہ کل شیء ۱۲۹۱ھ (۸) قمر التمام فی نفی الظل عن سید الانام ۱۲۹۷ھ (۹) اعلام الأعلام بان هندوستان دار الإسلام ۱۲۹۸ھ (۱۰) اعتقاد الأحباب فی الجميل والمصطفی والآل والأصحاب ۱۲۹۸ھ (۱۱) أنفس الفكر فی قربان البقر ۱۲۹۸ھ (۱۲) إقامة القيامة علی طاعن القيام لنبی تھاماۃ ۱۲۹۹ھ (۱۳) هدی الحیران فی نفی الفی عن سید الأکوان ۱۲۹۹ھ (۱۴) مُنیرالعین فی حکم تقبیل الإبهامین ۱۳۰۵ھ۔

جس وقت امام احمد رضا مسید افتاء پر فائز ہو چکے تھے اُس وقت

شرفعلی تھانوی کی حرکتیں

جس وقت اعلیٰ حضرت مسید افتاء پر فائز ہو چکے تھے اُس وقت شرفعلی تھانوی کی کیسی کیسی حرکتیں تھیں، ملاحظہ فرمائیے، ”ایک دفعہ مجھے کیا شارت سُوجہی کہ برسات کا زمانہ تھا مگر ایسا کہ کبھی برس گیا کبھی کھل گیا مگر چار پائیاں باہر ہی بچھتی تھیں جب برنسے لگا چار پائیاں اندر کر لیں جب کھل گیا باہر بچھالیں۔ والدہ صاحبہ کا تو انتقال ہو چکا تھا بس والد صاحب اور ہم دونوں بھائی ہی مکان میں رہتے تھے تینوں کی چار پائیاں ملی ہوئی بچھتی تھیں۔ ایک دن میں نے چپکے سے تینوں چار پائیوں کے پائے آپس میں خوب کس کے باندھ دیئے اب رات کو جو یہہ برمنا شروع ہوا تو والد صاحب جدھر سے بھی گھیٹتے ہیں تینوں کی تینوں چار پائیاں ایک ساتھ گھستنی چلی آتی ہیں۔ رسیاں کھولتے ہیں تو ھلتی نہیں کیونکہ خوب کس کے باندھی گئی تھیں کامنچا ہا تو چاقو نہیں ملتا غرض بڑی پریشانی ہوئی اور بڑی مشکل سے پائے کھل سکے اور چار پائیاں اندر لے جائی جاسکیں۔ اس میں اتنی دریگی کہ خوب بھیگ گئے۔ والد صاحب بڑے خفا ہوئے کہ یہ کیانا معقول حرکت تھی۔“

ہیئت جریدہ، مربعات، جفر، زائرچہ،“ اس کے علاوہ نظم و نثر فارسی، نظم و نثر ہندی، خط لخ، خط نتیعیت وغیرہ میں بھی کمال حاصل کیا۔ (ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ اوّل صفحہ ۱)

شرفعلی تھانوی کے اساتذہ

(۱) حافظ حسین علی صاحب دہلوی (۲) مولانا فتح محمد صاحب (۳) اشرفعلی تھانوی کے ماموں واجد علی (۴) مولانا منفعت علی دیوبندی۔ (اشرف السوانح جلد اول صفحہ ۵۶، ۵۷)

جس وقت امام احمد رضا مفتی بن چکے تھے اُس وقت شرفعلی تھانوی کی عمر

اعلیٰ حضرت ۱۲۸۲ھ کو مسید افتاء پر فائز ہوئے اُس وقت آپ کی عمر پوچھہ (۱۲) سال تھی۔

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلاؤ تو میں جو دیا تھا ملاحظہ فرمائیے،

”منہ یا ناک سے عورت کا دودھ جو بچے کے جوف میں پہنچ گا، حُرمتِ رضاوت لائے گا۔ یہ وہی نتویٰ ہے جو چودہ شعبان ۱۲۸۲ھ کو سب سے پہلے اس فقیر نے لکھا اور اسی چودہ شعبان

۱۲۸۲ھ کو مصبِ افتاء عطا ہوا۔ اور اسی تاریخ سے بحمد اللہ تعالیٰ نماز فرض ہوئی اور ولادت

۱۰ اشویں المکر ۱۲۸۲ھ روز شنبہ وقت ظہر مطابق ۱۲ جون ۱۸۵۶ء، ۱۱ جیٹھ سدی ۱۹۱۳ء سمیت کو

ہوئی تو مصبِ افتاء ملنے کے وقت فقیر کی عمر تیرہ برس دس مہینہ چار دن کی تھی جب سے اب تک

براہ ریکی خدمت دین لی جا رہی ہے والحمد للہ۔“ (ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ اوّل صفحہ ۱۴)

شرفعلی تھانوی کی پیدائش ۱۲۸۲ھ ربيع الثانی ۱۲۸۲ھ کو ہوئی اور اعلیٰ حضرت ۱۲ شعبان ۱۲۸۲ھ

کو مسید افتاء پر فائز ہو چکے تھے، اُس وقت شرفعلی تھانوی کی عمر ۶ سال تھی۔ کیا یہ ۶ سال کا شرفعلی

تھانوی اعلیٰ حضرت کا ہم عمر اور ہم سبق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس عمر کا بچہ ایک مفتی سے

ٹرکستا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر لڑے گا تو پھر جو انجام ہوگا اُس کا بھی اندازہ کر لیں۔ کیونکہ اعلیٰ

حضرت صرف مفتی ہی نہیں تھے، پھانوں کے قبیلہ بڑیج سے آپ کا تعلق بھی تھا۔

جس وقت شرفعلی تھانوی ایک عام مولوی بن چکا تھا اُس وقت امام احمد رضا کا علمی مقام

جس وقت شرفعلی تھانوی ۱۳۰۰ء کو ایک عام مولوی بن کر مرسرے سے فارغ ہوا تھا اُس وقت

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو مسید افتاء پر فائز ہوئے پندرہ (۱۵) سال ہو چکے تھے اور آپ تقریباً سو (۱۰۰) کتابوں کے مصنف بن چکے تھے اور اس کے علاوہ ہندوستان کے طول و عرض میں آپ

(شرف السوانح جلد اول صفحہ ۵۰۔ شرفعلی تہانوی، مولوی: الإفاضات اليومية من الأفادات القومية جلد ۴، صفحہ ۱۲۶۰ ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان)

”حضرت والا کونماز کا بچپن ہی سے اس قدر شوق تھا کہ بعض کھلیوں میں بھی نماز ہی کی نقل اُتارتے مثلاً سب ساتھیوں کے جوتے جمع کئے اور ان کی صفائی بنائیں اور ایک جو تاصفوں کے آگے رکھ دیا اور خوش ہوئے کہ جوتے بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔“ (شرف السوانح جلد اول صفحہ ۵۱) ”ایک مرتبہ میرٹھ میں میاں الہی بخش صاحب مرحوم کی کوٹھی میں جو مسجد تھی سب نمازوں کے جوتے جمع کر کے اُس کے شامیانہ پر پھینک دیئے۔“

”ایک صاحب تھے سیکری کے ہماری سوتیلی والدہ کے بھائی بہت ہی نیک اور سادہ آدمی تھے والد صاحب نے اُن کوٹھیکے کام پر کھچھوڑا تھا ایک مرتبہ کمیریث سے بھوکے پیاسے پر بیشان گھر آئے اور کھانا ناگال کر کھانے میں مشغول ہوئے گھر کے سامنے بازار ہے میں نے سڑک پر سے ایک کتے کا پلہ چھوٹا سا پکڑ کر گھر آ کر ان کی دال کی رکابی میں رکھ دیا بیچارے روئی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور پچھنیں کہا۔“ (الإفاضات اليومية من الأفادات القومية جلد ۴ صفحہ ۲۶۱) میں ایک روز پیشاب کر رہا تھا بھائی صاحب نے آکر میرے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا ایک روز ایسا کہ بھائی پیشاب کر رہے ہیں میں نے اُن کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ (الإفاضات اليومية من الأفادات القومية جلد ۴ صفحہ ۲۶۲)

دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کا تناخیل ہے کہ ایک دوسرے کو غسل کر رہے ہیں۔ گرمی کا موسم ہوگا۔

ایک واقعہ حفظِ کلام مجید کے بعد کا یاد آیا۔ ایک ناپینا حافظ تھے جن کو کلام مجید بہت پختہ یاد تھا اور اُس کا اُن کونا ز بھی تھا۔ اُن کو حضرت والا قبل بلوغ نوافل میں کلام مجید سُنایا کرتے تھے۔ ایک بار رمضان شریف میں دن کو اُن سے قرآن مجید کا دور کر رہے تھے۔ حضرت والا نے دو رکے وقت اُن کو متینہ کر دیا کہ حافظ جی میں آج تم کو دھوکا دوں گا اور یہ بھی بتائے دیتا ہوں کہ فلاں آیت میں دھوکا دوں گا۔ حافظ جی نے کہا میاں جاؤ بھی تم مجھے کیا دھوکا دے سکتے ہو بڑے بڑے حافظ تو مجھے دھوکا دے، ہی نہ سکے۔ حضرت والا جب سُنے کھڑے ہوئے اور اس آیت پر پہنچے 『إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ لِّكُلِّ قَوْمٍ هَادِيٌّ』 تو بہت ترتیل کے ساتھ پڑھا جیسا کہ رکوع کرنے کے قریب حضرت والا

کا معمول ہے اُس کے بعد اس سے آگے جب ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ الْخَ﴾ پڑھنے لگے تو لفظ اللہ کو اس طرح بڑھا کر پڑھا کہ جیسے رکوع میں جار ہے ہوں اور تکبیر یعنی ”الله اکبر“ کہنے والے ہوں بس حافظ جی یہ سمجھ کر رکوع میں جار ہے ہیں فوراً رکوع میں چلے گئے ادھر حضرت والا نے آگے قرات شروع کر دی ﴿يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ النَّاسُ﴾ اب ادھر حافظ جی تو رکوع میں پہنچے اور ادھر قرات شروع ہو گئی فوراً حافظ جی سید ہے ہو کر کھڑے ہوئے، اس پر حضرت والا کو بے اختیار بھی آگئی اور قہقہہ مار کر ہنس پڑے اور بھی سے اس قدر مغلوب ہوئے کہ نمازوڑ کر (یاد رہے کہ قہقہہ مار کر ہنسے سے نمازو خود بخود فاسد ہو جاتی ہے اور وضو بھی دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ شہزاد) الگ ہو گئے۔ (شرف السوانح ج ۱، ص ۵۰)

یہ ہیں دیوبندیوں کے حکیم الامت، جامع المحمد دین کے تجدیدی کارنا نے جن پر ان لوگوں کو نماز ہے۔ یہ مجدد دین ہے یا مجدد دشراست؟

کیا ایسا شخص امام احمد رضا کا ہم عصر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اکابرین دیوبندی کی تفییر ان کی اُن کفر یہ عبارات کی وجہ سے کی ہے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، اور نہ ہی علمائے دیوبند نے اپنی اُن کفر یہ عبارات سے توبہ کی ہے۔ اُن کفر یہ عبارات میں سے چند عبارات ملاحظہ فرمائیے،

”پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زیدیتھ ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اُس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا ملک غیب، اگر بعض علوم غنیمہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی (بچہ) و مجنون (پاگل) بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔“ (شرفعلی تہانوی، مولوی: حفظ الایمان صفحہ ۱۳)

قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی)

”دلیل اس دعویٰ کی یہ ہے کہ انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو صرف علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل تو اُس میں بسا اوقات امتی مساوی ہو جاتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔“

(قاسم نانوتوی، مولوی: تحذیر الناس دارالاشاعت کراچی)

”بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔“ (قاسم نانوتوی، مولوی: تحذیر الناس دارالاشاعت کراچی)

”بلکہ اگر بعد زمانہ نبوی ابھی کوئی نبی نی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا

نقاب کشانی

15

چہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔” (تحذیر الناس، صفحہ ۳۶)

”الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلافِ نصوصِ قطعیہ کے بلا دلیل محسن قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعتِ نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو روک کر کے ایک شرک ثابت کرنا ہے۔“ (خلیل احمد انبیتھوی، مولوی: براہین قاطعہ صفحہ ۵۵ کتب خانہ امدادیہ دیو بند)

یہ ہیں علمائے دیوبند کی گفرنی عبارات جن سے آج تک اُن کو جو عن کی توفیق نہیں ہوئی بلکہ الٹا چور کو تو اُن کوڈائی کے مصداق، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کو الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اکابرین کی تکفیر کی اُب اُگر کسی کا دل خود ہی جہنم میں جانے کو چاہے اور وہ خود ہی اسلام کے وسیع دائرہ سے خارج ہو جائے اور وہ خود ہی انگریزوں سے وظیفہ کھائے بیٹھا ہو تو اُس میں امام احمد رضا کا کیا قصور؟ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے اس بات کا اقرار خود دیوبندیوں کو بھی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے،

”اگر خانصاحب کے نزدیک بعض علمائے دیوبند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے انھیں سمجھا تو خانصاحب پر اُن علمائے دیوبند کی تکفیر فرض تھی اگر وہ اُن کو کافرنہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔“ (مرتضیٰ حسن دربھنگی، مولوی: اشد العذاب علی مسیلمة الپنجاب صفحہ ۱۳ مطبع مجتبائی جدید دہلی)

ایک اور جگہ لکھا ہے، ”جس طرح مسلمان کو کافر کہنا گفر ہے۔ اسی طرح کافر کو مسلمان کہنا بھی گفر ہے۔“ (اشد العذاب علی مسیلمة الپنجاب صفحہ ۲۰)

ایک اور جگہ لکھا ہے، ”ایسے وقت میں اگر علماء نکوت کریں اور خلق تگڑا ہو جائے تو اُس کا و بال کس پر ہوگا؟ آخ ر علماء کا کام کیا ہے جب وہ گفر اور اسلام میں فرق بھی نہ بتائیں تو اور کیا کریں گے۔“ (اشد العذاب علی مسیلمة الپنجاب صفحہ ۲۲)

دیوبندیوں کے امام الحصر اور شاہ کشمیری (دیباںہ کے اس امام العصر نے خود اپنی کتاب ”فیض الباری شرح بخاری“ میں شان اُلوہیت میں ایسے کلمات لکھے ہیں جو کہ صرف گفر ہیں) لکھتا ہے، ”یہ دین نہیں ہے کہ

نقاب کشانی

16

کسی مسلمان کو کافر کہا جائے اور نہ ہی یہ دین ہے کہ کسی کافر کو کافر نہ کہا جائے، اور اُس کے گفر سے چشم پوشی کی جائے۔“ (انور شاہ کشمیری، مولوی: اکفار الملحدین صفحہ ۳۶ مکتبہ لدھیانوی کراچی)

”جو مسلمان شخص رسول اللہ ﷺ پر (العیاذ بالله) سب و شتم کرے، یا آپ کو جھوٹا کہے، یا آپ میں عیب نکالے، یا کسی بھی طرح آپ کی توہین و تنقیص کرے وہ کافر ہے اور اُس کی بیوی اُس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔“ (اکفار الملحدین صفحہ ۲۱۰)

”یا کسی رسول یا نبی کی تندیب کرے، یا کسی بھی طرح اُن کی تحقیر و توہین کرے، مثلاً تحقیر کی نیت سے بصورت تضییر اُن کا نام لے، یا ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد کسی کی نبوت کو جائز کہے، ایسا شخص کافر ہے۔“ (اکفار الملحدین صفحہ ۲۱۳)

محمد یوسف بنوری نے کتاب ”اکفار الْمُلْحَدُون“ کا تعارف ان الفاظ میں لکھا:

”اُسی نے علمائے اُمت پر کچھ بھی ہوا رکیسے ہی طعنے کیوں نہ دئے جائیں، رہتی دنیا تک یہ فریضہ عائد ہے اور ہے گا کہ وہ خوف و خطر اور ”لومتہ لائم“ (لامت کرنے والوں کی ملامت) کی پرواہ کئے بغیر جو شرعاً ”کافر“ ہے اُس پر ”گفر“ کا حکم اور فتویٰ لگائیں..... اور جو بھی فرد یا فرقہ قرآن و حدیث کی نصوص کی رو سے ”اسلام“ سے خارج ہو اُس پر اسلام سے خارج اور دین سے بے تعلق ہونے کا حکم اور فتویٰ لگائیں، اور کسی بھی قیمت پر اُس کو مسلمان تسلیم نہ کریں، جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو، یعنی قیامت تک..... نیز علمائے حق جب کسی فرد یا جماعت کی تکفیر کرتے ہیں تو وہ اُس کو ”کافر“ نہیں بناتے، ”کافر“ تو وہ خود اپنے اختیار سے گفرنی عطا کر دیا تو اقوال و افعال اختیار کرنے سے بنتا ہے، وہ تو صرف اُس کے گفر کو ظاہر کرتے ہیں۔“ (اکفار الملحدین صفحہ ۳۹)

علمائے دیوبندی اُن عبارات سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ دیوبندیوں کی طرف سے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام کہ انہوں نے دیوبندی اکابرین کی بلا وجہ تکفیر کی ہے، بے جا اور تعصّب پر مبنی ہے۔

یہ عبارات کسی تہرسے کی محتاج نہیں کیونکہ تمام عبارات اردو میں اور اُن کا مفہوم بالکل واضح ہے جس کو ہر اردو سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بخشے اور تمام اہل سنت کو صراطِ مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اسی میں ہم سب کی نجات ہے۔ (آمین)

کیا امام احمد رضا نے بریلی میں تکفیر کی مشین لگار کھی تھی؟

یہ الزام عرصہ دراز سے امام الہست امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر لگایا جا رہا ہے کہ وہ ”مکفر المسلمين“ تھے، انہوں نے بریلی میں ”غفرساز“، مشین لگار کھی تھی جہاں سے وہ مسلمانوں کی تکفیر کیا کرتے تھے۔ گویا اعلیٰ حضرت پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اکابرین دیوبندی کی تکفیر کی ہے وہ بلا وجہ کی ہے۔ علمائے الہست کی طرف سے اس الزام کے متعدد بار جوابات دیئے جا چکے ہیں لیکن الزام لگانے والے بھی بڑے ڈھیٹ اور بے شرم ہیں کہ بار بار جوتے کھانے کے باوجود بھی اُن کی تسلی نہیں ہوتی۔

ملا آں باشد کہ چپ نہ شود
شاید ان حضرات کو بار بار جوتے کھانے میں مزا آتا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں اگر انھیں جوتے کھانے میں مزا آتا ہے تو ہمیں جوتے مارنے میں مزا آتا ہے۔ چنانچہ

عبدالرزاق ملیح آبادی کی ہرزہ سرائی

عبدالرزاق ملیح آبادی نے اعلیٰ حضرت مکمل ”ذکر آزاد“ میں یوں ہرزہ سرائی کی ہے، ”یاد رہے ہیں کہ“ دیکھو جی شاہ اسماعیل شہید تو خاندان ولی اللہ کے ایک فرد تھے اور یہ لوگ خاندان ولی اللہ کو کافر کہتے ہیں۔ ”یاد رکھو دیوبندیو! کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا لیکن تھانا فرمان، جس کی وجہ سے طوفان نوح میں غرق ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ اسی طرح لوٹ علیہ السلام کی بیوی ایک نبی کی بیوی ہونے کے باوجود کافروں کی ساتھی تھی اسی لئے وہ بھی عذاب کا شکار ہو گئی۔ یزید بیٹا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لیکن تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل۔ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا، لوٹ علیہ السلام کی بیوی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا یزید گمراہ ہو سکتے ہیں تو کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرتبہ اُن حضرات سے زیادہ تھا کہ اُن کا پوتا اسماعیل دہلوی اپنی حرکتوں کے باوجود بھی گمراہ نہیں ہے۔ ایسی چہ بواجھی است

دوسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کی ہے۔ اور اُس کی تو ہیں آمیز عبارات کو ضرور لگری ہے اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اسماعیل دہلوی کی توبہ مشہور ہو چکی تھی۔ ہاں البتہ اعلیٰ حضرت کی ولادت سے بھی کئی سال قبل امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسماعیل دہلوی کی تکفیر کی ہے۔

اسماعیل دہلوی ”تقویۃ الایمان“ کی زد میں ”فرمایا کہ بے شک ہو گا اسی طرح جب تک چاہے گا اللہ، پھر بھی گا ایک باو اچھی سو جان

نکال لے گی جس کے دل میں رائی کے دانہ بھرا یمان ہو گا سورہ جاویں گے وہی لوگ کہ جن میں کچھ بھلائی نہیں، سو پھر جاویں گے اپنے باپ دادوں کے دین پر۔“ (اسماعیل دہلوی، مولوی: تقویۃ الایمان صفحہ ۹۵ مکتبہ خلیل لاہور)

آگے لکھا ہے: ”اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخر زمانہ میں قدیم شرک بھی راجح ہو گا، سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا۔“ (تقویۃ الایمان صفحہ ۹۶)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ بقول اسماعیل دہلوی کے پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق اللہ تعالیٰ نے وہ باو بھیج دی جو جان نکال لے گی اُن لوگوں کی جن کے دل میں رائی کے دانہ بھرا یمان ہو گا۔ اس طرح ایمان دار لوگ تو مر گئے اور پیچھے رہ گیا اسماعیل دہلوی۔ سچ ہے جو کسی کے لئے گڑھا کھوتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔

خاندان ولی اللہ کا فرد ہونا اسماعیل دہلوی کے لئے نافع نہیں

یاد رہے کہ آج کل کچھ دیوبندی حضرات یہ کہہ کر اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ”دیکھو جی شاہ اسماعیل شہید تو خاندان ولی اللہ کے ایک فرد تھے اور یہ لوگ خاندان ولی اللہ مولانا احمد رضا خاں صاحب اپنے اور اپنے معتقدوں کے سواد نیا بھر کے مسلمانوں کو کافر بلکہ ابو جہل و ابو لهب سے بھی بڑھ کر اکفر سمجھتے تھے۔“ (عبدالرزاق ملیح آبادی، مولوی: ذکر آزاد صفحہ ۱۲۱)

شاید عبدالرزاق ملیح آبادی یہ بات لکھتے وقت ”تقویۃ الایمان“ کو بھول گئے تھے۔ ورنہ ”ذکر آزاد“ کے کسی صفحے پر اُس کا بھی تذکرہ کر دیتے کہ کس طرح اُن کے مددوح اسماعیل دہلوی نے محمد بن عبدالوهاب بخاری کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمام عالم اسلام کو ابو جہل کی طرح مشرک لکھا ہے۔ یہاں تک کہ اُن کے قلم تکفیر ساز کی زد سے اُن کے دادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور اُن کے چچا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہما اللہ تعالیٰ بھی محفوظ نہیں رہے۔

اسماعیل دہلوی مسلمانوں کی تکفیر کے شوق میں اس قدر انداز ہو گیا تھا کہ خود بھی ”تقویۃ الایمان“ کی زد میں آگیا، ملاحظہ فرمائیے،

اسماعیل دہلوی ”تقویۃ الایمان“ کی زد میں

”فرمایا کہ بے شک ہو گا اسی طرح جب تک چاہے گا اللہ، پھر بھی گا ایک باو اچھی سو جان

اسماعیل دہلوی نے ”تقویۃ الایمان“ کے ذریعے تفریق کا ایسا شیخ بویا ہے کہ دوسو سال ہونے کو ہیں کہ مسلمانوں میں ہر طرت اشتشار کا ایسا سلسلہ جاری ہے کہ رکنے میں نہیں آتا۔

رئیس احمد جعفری کی علمی خیانت

رئیس احمد جعفری اعلیٰ حضرت کے بارے میں یوں تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ ”مولانا احمد رضا بریلوی نے مولانا عبدالباری تھا اور لوگ انھیں باری میاں کہتے ہیں اگر ان کا نام عبداللہ ہوتا تو لوگ انھیں اللہ میاں کہتے ہے لہذا کافر۔“ (رئیس احمد جعفری، آزادی ہند، صفحہ ۱۸۹)

اس کے جواب میں ہم صرف یہی کہیں گے کہ اگر دیوبندیوں میں غیرت ہے تو اس بے بنیاد الزام کا ثبوت دو ورنہ لعنة الله علی الکاذبین کا طوق گلے میں ڈال لو۔ دراصل بندے سے شرم و حیاء رخصت ہو جائے تو اُسے اس بات کی رخصت ہے کہ وہ جو جی میں آئے کہے۔

امام الہست امام احمد رضا مجدد ث بربیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اکابرین دیوبندی تکفیر ان کی اُن گفری یہ عبارات کی وجہ سے کی ہے جو آج تک اُن کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر اکابرین دیوبند پٹنسور و روپوں کے عوض گفری یہ عبارات نہ لکھتے تو امام الہست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ خواہ مخواہ اکابرین دیوبندی تکفیر کرتے۔ پھر بار بار اکابرین دیوبندی کو توجہ اُن عبارات کی طرف دلاتی گئی اور انھیں اُن عبارات سے رُجوع کرنے کے لئے کہا گیا۔ آخر یہ عبارات آسمان سے تو اُتری ہوئی نہ تھیں کہ اُن سے رجوع نہ کیا جاسکے۔ لیکن اکابرین دیوبند نے اپنی عبارات سے رُجوع کرنے کیا اُٹا علمائے حق کو الزامات دینے شروع کر دیئے۔ آخر کار جب اکابرین دیوبند کے رُجوع کی کوئی صورت نہ رہی تو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اکابرین دیوبندی تکفیر کی اور اپنے فتاویٰ کو ”حسام الحرمین“ کے نام سے مرتب کیا اور علمائے حرمن شریفین سے تقدیقات حاصل کیں۔

اب اکابرین دیوبندی وہ عبارات پیش کی جاتی ہیں جن کی وجہ سے امام الہست احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اُن کی تکفیر کی۔ یہ عبارات ہر اردو خواں آسانی سے سمجھ سکتا ہے، کیونکہ تمام عبارات اردو میں ہیں۔ مُنصف مزاج آدمی کے لئے یہ عبارات پڑھنے کے

حسین احمد ثاندھوی کا الزام

دیوبندیوں کے شیخ الاسلام حسین احمد ثاندھوی نے اپنے گالی نامہ ”الشہاب الثاقب“ میں جگہ جگہ اعلیٰ حضرت کو ”مُجَدِّدُ الدِّفْرِ“ لکھا ہے۔

ثاندھوی صاحب اپنے قطب الارشاد رشید احمد گنگوہی اور جامع المجد دین کے تجدیدی کارنا نے ملاحظہ فرماتے تو انھیں کبھی ”شہاب ثاقب“ نامی گالی نامہ لکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔

عبدالحی لکھنؤی کا الزام

ابو الحسین عبدالحی لکھنؤی نے لکھا ہے:

”مسارعاً فی التّکفیر قد حمل لواء التّکفیر و التّفریق فی الدّیار الہندیة فی العصر الأُخیر۔“ (عبدالحی لکھنؤی، مولوی نزہۃ الخواطر جلد ۸ صفحہ ۳۹ دادا ترہ

معارف عثمانیہ حیدر آباد دکن)

یعنی، تکفیر میں بہت عجلت پسند ہے۔ زمانہ اخیر میں اُسی نے دیارِ ہند میں تکفیر اور تفریق کا علم بلند کیا۔

”تقویۃ الایمان“ مسلمانوں کو لڑانے کے لئے لکھی گئی

دیارِ ہند میں تکفیر اور تفریق کا علم اعلیٰ حضرت نے نہیں اسماعیل دہلوی نے بلند کیا تھا، جس نے کتاب ”تقویۃ الایمان“ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لئے لکھی ہے۔ چنانچہ شرفعلی تھانوی نے لکھا:

”میں (اسماعیل دہلوی) جانتا ہوں کہ اس (تقویۃ الایمان) میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدید بھی ہو گیا ہے مثلاً اُن اُمور کو جو شرک غنی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے ان وجود سے مجھے اندریشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی..... اس لئے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے گو اس سے شورش ہوگی مگر تو قع ہے کہ لڑکھڑک خود ٹھیک ہو جائیں گے۔“ (شرفعلی تھانوی، مولوی ارواح ثلاثہ صفحہ ۷۶ مکتبۃ الحسن لاہور)

کا احساس ہے کہ کوئی بھی میری اس بات کی حمایت نہیں کرے گا۔ چنانچہ خود لکھتے ہیں،
”مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارہ نہ ہوگی،“

(تحذیرالناس، صفحہ ۵)

”تحذیرالناس“ کی موافقت سوائے عبدالجحی کے کسی نہیں کی
اور ہوا بھی یوں پورے ہندوستان میں کسی نے بھی موصوف کے اس قول کی موافقت نہیں
کی مساوائے عبدالجحی (یاد رہے کہ عبدالجحی لکھنؤی نام کے دو اشخاص ہندوستان میں ہوئے ہیں ان میں سے
ایک کی کنیت ابوالحسنات تھی جو معصہ دُکُب و رسائل کے مصنف اور محشی تھے بر صیریں طبع ہونے والے ہدایہ اور
شرح و تاریخ پر ان ہی کے حوالی ہیں، فقہاء احتجاف کے تراجم میں ”الفوائد البیهیه“ کے نام سے کتاب ان ہی کی
لکھی ہوئی ہے اور ان کا امام اہلسنت نے ”فتاویٰ رضویہ“ میں اپنے کلمات میں ذکر فرمایا ہے جب کہ دوسرے کی
کنیت ابوالحسن تھی جس نے ”نزہۃ الخواطر“ نامی کتاب لکھی اور یہ شخص ایک متعصب وہابی تھا) کے۔ شرعی
تحانوی کہتے ہیں،

”جس وقت مولانا نے ”تحذیرالناس“ لکھی ہے کسی نے ہندوستان بھر میں مولانا
کے ساتھ موافقت نہیں کی بجز مولانا عبدالجحی صاحب کے مولانا کو ہمارے بزرگوں
کے ساتھ بے حد عقیدت اور محبت تھی۔“ (الافتراضات الیومیہ من الافتادات القومیہ،
جلد ۵، صفحہ ۲۹۷)

موصوف نے جو عقیدہ گھڑا ہے یہی عقیدہ تو قادیانیوں کا بھی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے،

”تحذیرالناس“ اور مرتاضوں کے عقائد میں موافقت

”ایک بہت بڑی غلط فہمی ”خاتم النبیین“ کے معنی آخری نبی کرنے سے پیدا ہوئی ہے.....
”خاتم النبیین“ کا لفظ حضرت نبی کریم کے لئے مقامِ مدح میں ہے جس سے آپ کے مرتبہ کی
بلندی مقصود ہے یعنی آپ کی شان سب سے اوپنجی ہے ورنہ سب سے آخر میں ہونا کوئی قابلٰ
تعریف بات نہیں۔“ (بیان عم حق صفحہ ۱۱ مطبوعہ ضیاء الاسلام پریس روہو)

عقیدہ ختم نبوت ضروریاتِ دین میں سے ہے اور جو ضروریاتِ دین میں سے کسی کا انکار
کرے یا اس میں تاویل کرے تو یہ بھی لغفر ہے۔ انور شاہ کشمیری نے ”اکفارِ ملحدین“ نے لکھا کہ،

بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل نہ ہو گا کہ علمائے دیوبند کا امام اہلسنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بلاوجہ تکفیر
کا الزماء لگانا مخفی ضدار وہٹ دھرمی کے سوا کچھ نہیں۔ چنانچہ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی
نے اپنے ایک رشتہ دار احسن نانوتوی کے ایک سوال کے جواب میں ایک رسالہ ”تحذیرالناس“
لکھا جس سے پورے متحده ہندوستان میں ایک پھل بچگئی اور کسی نے بھی قاسم نانوتوی کے اس
ذہنی افشاء کی تائید نہیں کی۔ ہوایوں کہ قاسم نانوتوی کے رشتہ دار احسن نانوتوی نے ”تفصیر دُرِّ
منثور“ میں مذکور اثرِ ابن عباس کے بارے میں دریافت کیا تو موصوف نے اثرِ ابن عباس کو دلیل
بناتے ہوئے ”خاتم النبیین“ کا ایک نیا مفہوم اخذ کیا جو آج تک کسی نے نہ کیا تھا۔ حالانکہ کہ
اکابرینِ امت نے اس اثر کو شاذ قرار دیا ہے اور اسے عقیدہ ختم نبوت کے منافی قرار دیا ہے۔
موصوف لکھتے ہیں،

”تحذیرالناس“ کی پہلی متنازعہ عبارت

”بعد حمد و صلوٰۃ کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنے ”خاتم النبیین“ معلوم کرنے
چاہئیں تاکہ فہم جواب میں کچھ وقت نہ ہو سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلیعہ خاتم ہونا بایس معنے
ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں۔ مگر اہل فہم پرروشن
ہو گا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں پھر مقامِ مدح میں ”ولکن رسول اللہ
و خاتم النبیین“ فرمانا اس صورت میں کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر اس کو اوصافِ مدح میں سے
نہ کہئے اور اس مقامِ کو مقامِ مدح نہ قرار دیجئے تو البتہ خاتمیت باعتبار زمانی صحیح ہو سکتی ہے۔

(تحذیرالناس، صفحہ ۴)

اس عبارت میں موصوف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ”خاتم النبیین“ سے یہ مراد لینا کہ حضور ﷺ
اللہ کے آخری نبی ہیں یہ صرف عوام کا خیال ہے لیکن اہل علم حضرات کا یہ خیال نہیں ہے کیونکہ آیت
”ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین“، حضور ﷺ کی مدح میں نازل ہوئی ہے اور زمانے کے
اعتبار سے مقدم یا مؤخر ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے اس لئے آپ ﷺ کی خاتمیت
باعتبار زمانی اس صورت میں صحیح نہیں ہو سکتی۔ البتہ اگر اس آیت کو مدح قرار نہ دیا جائے تو پھر آپ
کو آخری نبی کہنا صحیح ہو سکتا ہے۔ موصوف کی یہ بات لغو ہے اسی لئے موصوف کو خود بھی اس بات

”ضروریاتِ دین کے انکار میں کوئی تاویل مسوع اور معین نہیں، اس لئے کہ جو تاویل قرآن، حدیث، اجماعِ امت، یا قیاسِ جملی کے خلاف ہو وہ قطعاً باطل ہے۔“

(حاشیہ اکفار الملحدین صفحہ ۱۲۱)

”پس ثابت ہوا کہ ضروریاتِ دین میں تاویل کرنا گفر نہیں بچا سلتا۔“

(اکفار الملحدین صفحہ ۱۶۲، صفحہ ۱۸۵)

”خاتم النبین“ کا معنی آخری نبی ہونے پر امت کا اجماع ہے

”خاتم النبین“ کا یہ معنی کہ حضور ﷺ کے آخری نبی ہیں اس پر امت کا اجماع ہے۔ اور شاہ کشمیری نے لکھا کہ،

”عہد نبوت سے اب تک امتِ محمدیہ کا ہر حاضر و غائب فرد عہد بعهد اس عقیدہ کو سُنتا، سمجھتا اور مانتا چلا آتا ہے حتیٰ کہ ہر زمانہ میں تمام مسلمانوں کا اس پر ایمان رہا ہے کہ: ”خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد اب کوئی نبی نہ ہوگا۔“ (اکفار الملحدین صفحہ ۷۵) اب اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے کہ یہ صرف عوام کا خیال ہے اہل فہم کے نزدیک ”خاتم النبین“ کے یہ معنی درست نہیں ہیں تو ایسا شخص اور شاہ کشمیری دیوبندی کے نزدیک بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قاسم نانو توی پر بھی تو یہی الزام ہے کہ اُس نے ”خاتم النبین“ کا مفہوم متعین کرنے میں ایسی تاویل کی ہے کہ اُس کی وہ صورت باقی نہیں رہی جو کہ تو اتر سے ثابت ہے۔ تو پھر امام الحسنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر کیوں بلا وجہ تکفیر کا الزام لگایا جاتا ہے؟

”تحذیر الناس“ کی دوسری متنازعہ عبارت

قاسم نانو توی نے ایک اور لکھا کہ،

”بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔“ (تحذیر الناس، صفحہ ۱۸۴)

”تحذیر الناس“ کی تیسرا متنازعہ عبارت

”بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلعم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا چہ جائیدہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز نہ ہے۔“

ضروریاتِ دین میں تاویل کا حکم

”ارباب حل و عقد علماء کا اس پر اجماع ہے کہ ”ضروریاتِ دین“ میں کوئی ایسی تاویل کرنا بھی گفر ہے جس سے اُس کی وہ صورت باقی نہ رہے جو تو اتر سے ثابت ہے، اور جواب تک ہر زمانہ کے خاص و عام مسلمان سمجھتے سمجھاتے چلے آئے ہیں، اور جس پر امت کا تامل رہا ہے۔“ (اکفار الملحدین صفحہ ۷۳)

ضروریاتِ دین میں ایسی تاویل کرنا جو نص قطعی اور اجماع امت کے خلاف ہو الحال و زندگہ ہے۔

تاویل کی قسمیں

”یاد رکھئے! تاویلیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ تاویل جو قرآن و حدیث کی کسی قطعی نص اور اجماع امت کے خلاف نہ ہو، دوسری تاویل وہ ہے جو کسی نص قطعی یا اجماع امت کے منافی اور مخالف ہو۔ ایسی تاویل کرنا ہی الحاد و زندگہ ہے۔“ (اکفار الملحدین، صفحہ ۱۸۴)

ضروریاتِ دین کے منکر کا حکم

ضروریاتِ دین کا منکر چاہے اہل قبلہ میں سے ہی کیوں نہ ہو اُس کی تکفیر کی جائے گی۔ مولوی محمد ادريس میرٹھی نے لکھا کہ،

”اور دونوں بزرگوں (مُحْمَّق ابن امیر الحاج اور شیخ سُبْکی) کے نزدیک ضروریاتِ دین کا انکار یا موجباتِ گفر کا ارتکاب کرنے والا شخص قطعاً کافر ہے، اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو اور خود کو مسلمان کہتا ہو حاکمِ شرعیہ اور عبادات پر کار بند بھی ہو، نیز یہ ثابت ہوا کہ ضروریاتِ دین میں سے کسی ایک کا انکار یا موجباتِ گفر کا ارتکاب اُس کو اہل قبلہ سے خارج کر دیتا ہے، (اس لئے ہم کہتے ہیں کہ وہ اکابرین دیوبندی شمول اور شاہ کشمیری کے جنہوں نے شانِ اُلویتیت یا شانِ رسالت میں ناز بینا کلمات لکھے یا کہے موجبات گفر کے ارتکاب نے انہیں اہل قبلہ ہونے سے خارج کر دیا) نیز یہ کہ اہل قبلہ ہونے کے معنی ”قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے“ سمجھنا ناواقفیت کی دلیل ہے۔“ (محمد ادريس میرٹھی، مولوی: حاشیہ اکفار الملحدین صفحہ ۱۰۷۔ مکتبہ لدھیانوی کراچی)

ضروریاتِ دین کے انکار میں کوئی تاویل مسموع نہیں۔ مولوی محمد ادريس میرٹھی نے لکھا کہ،

نہیں کی ہے ہاں البتہ علمی خیانت دیکھنی ہو تو اپنے کھدر پوش شیخ الاسلام حسین احمد ظانڈوی (جن کے بارے میں عبدالرزاق ملیح آبادی نے ”شیخ الاسلام نمبر“ میں لکھا ہے کہ، ”تم نے کبھی خُدا کو بھی گلی کو چوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ کبھی خُدا کو بھی اُس کے عرش عظمت و جلال کے نیچے فانی انسانوں سے فروتنی کرتے دیکھا ہے؟ تم کبھی تصوّر بھی کر سکے کہ رب العالمین اپنی کبریا یوں پر پردہ ڈال کر تمہارے گھروں میں بھی آ کر رہے گا۔“ (عبدالرزاق ملیح آبادی، مولوی: ”شیخ الاسلام نمبر“ صفحہ ۵۹ الجمعة دہلی، صفحہ ۱۱۳ مکتبہ مدنیہ گوجرانوالہ) کی کتاب ”شہاب ثاقب“ کا مطالعہ کرو جس میں آپ کے شیخ الاسلام نے فرضی کتابیں بھی گھٹلی ہیں۔

براہین قاطعہ کی کفریہ عبارت

خلیل احمد انیسٹھوی نے مولانا عبدالسمیع بیدل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ”انوار ساطع“ کے جواب میں ایک کتاب ”براہین قاطعہ“ لکھی جس میں شیطان اور ملک الموت کے علم کو حضور ﷺ کے علم سے زیادہ لکھا۔ اس کتاب کی تصدیق رشید احمد گنگوہی نے کی۔ موصوف نے لکھا کہ، ”الاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محيط زمین کا فخر عالم کو خلافِ نصوص قطیعہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون ہی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔“ (براہین قاطعہ، خلیل احمد انیسٹھوی، صفحہ ۵۵)

۱۔ اس عبارت میں حضور ﷺ کے علم غیب کا انکار کیا گیا ہے لیکن اسی علم کو شیطان اور ملک الموت کے لئے نص سے ثابت تھا گیا ہے۔

۲۔ اس عبارت میں ایک طرف تو حضور ﷺ کے لئے علم محيط زمین کو شرک قرار دیا گیا ہے لیکن دوسری طرف جب اُن کے پیشواشیطان کی باری آئی تو یہی علم اُس کے لئے ثابت کرنا عین ایمان قرار دے دیا گیا بلکہ بقول انیسٹھوی کے اُس کے لئے قرآن میں نص بھی وارد ہے۔

۳۔ موصوف کو حضور ﷺ کے علم محيط زمین کے لئے قرآن میں ایک بھی آیت نظر نہیں آئی

کیا جائے۔“ (تحذیر الناس صفحہ ۳۴)

اب قادیانیوں کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے،

مرزا یسیوں کا عقیدہ

”ایسے نبی بھی آسکتے ہیں جو رسول کریم ﷺ کے لئے بطور ظل ہوں گے..... اس قسم کے نیویں کی آمد سے آپ کے آخر الانبیاء ہونے میں فرق نہیں آتا۔“ (مرزا بشیر الدین محمود، قادیانی: دعوت الامیر صفحہ ۲۵ مطبوعہ قادیان)

”تحذیر الناس“ کی چوتھی مقاصد عبارت

”دلیل اس دعویٰ کی یہ ہے کہ انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ باقی رہا عمل اس میں با اوقات بظاہرا متی مساوی ہو جاتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔“ (تحذیر الناس صفحہ ۷)

دیوبندیوں کا ایک ازام اور اُس کا جواب

دیوبندی حضرات کو اس بات کا شکوہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ”تحذیر الناس“ کی عبارات لکھتے وقت درمیان میں (۔۔۔) نہیں لکھا اور اعلیٰ حضرت نے ان عبارات کو خود ساختہ معنی پہنانے بیں۔ چنانچہ ”تحذیر الناس“ مطبوعہ دارالاشراعت کراچی کے صفحہ ۲۶ پر ”احم رضا خان صاحب بریلوی کی علمی دیانت کا ایک نمونہ“ کے عنوان سے تایا گیا ہے کہ یہ عبارات مختلف جگہوں سے لی گئی ہیں۔ گویا اعلیٰ حضرت نے ”تحذیر الناس“ کی عبارات نقل کرتے ہوئے خیانت سے کام لیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ”تحذیر الناس“ کی عبارات کا خلاصہ پیش کیا ہے اس لئے ان کو مسلسل ہی لکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عبارات جو ”تحذیر الناس“ میں مختلف جگہوں پر موجود ہیں ان میں سے ہر عبارت اپنی جگہ پر مستقل گفر ہے۔ اس لئے انھیں مسلسل لکھنے یا علیحدہ لکھنے سے قاسم نانوتی گفر کے ازام سے بری نہیں ہو جاتا۔ تیسرا بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ”تحذیر الناس“ کی عبارات کو خود ساختہ معنی ہرگز نہیں پہنانے۔ ان عبارات کا جو مفہوم ہے وہ ان کے سیاق و سبق سے بالکل واضح ہے۔ اس لئے اعلیٰ حضرت نے کوئی خیانت

تحانوی کے ڈکلاء کی فاسد تاویلیں

تحانوی کی یہ عبارت اس قدر گستاخانہ اور رکھٹیا ہے کہ ان کے دکلائے نے بھی اس کا مفہوم معین کرنے میں قلبازیاں کھائی ہیں۔ تحانوی کے ایک وکیل مرتضیٰ حسن دربھنگی سے لکھا کہ، ”عبارت متنازع عہ فیہا میں لفظ ایسا بمعنی اس قدر اور اتنا ہے پھر تشیہ کیسی۔

(توضیح البیان، صفحہ ۱۲)

دوسرے وکیل منظور نعمانی لکھتے ہیں:

”حفظ الایمان“ کی اس عبارت میں لفظ ایسا تشیہ کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ وہ یہاں بدول تشیہ کے ”اتنا“ کے معنی میں ہے۔

(منظور نعمانی، مولوی: فتح بریلی کا دلکش نظر، صفحہ ۴۰)

گویا مرتضیٰ حسن دربھنگی اور منظور نعمانی کے نزدیک تحانوی کی اس عبارت میں لفظ ”ایسا“ تشیہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ”اتنا“ اور ”اس قدر“ کے معنی میں ہے۔ البتہ اگر تشیہ کے معنی میں ہوتا تو گفر ہوتا۔ وہ کیا تاویل ہے۔ اب ان دونوں کے معین کردہ مفہوم کو تحانوی کی ناپاک عبارت میں سمجھا جائے تو عبارت یوں ہوگی،

”پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید حجج ہو تو دریافت طلب یا مرہبے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علوم غیریہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے اتنا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی (بچہ) و مجنون (پاگل) بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔“ معاذ اللہ تحانوی کے ان دونوں حضرات کے معین کردہ مفہوم سے تو تحانوی کا کفر پہلے سے بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے، کہ حضور ﷺ کے علم کو جانوروں اور پاگلوں کے علم کے برابر قرار دے دیا۔ تحانوی کے تیسرے وکیل ثانڈوی نے لکھا کہ،

”جناب یہ تو ملاحظہ کیجئے کہ حضرت مولانا عبارت میں لفظ ”ایسا“ فرمارہے ہیں لفظ ”اتنا“ تو نہیں فرمارہے ہیں اگر لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت البتہ یہ احتمال ہوتا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے علم کو اور چیزوں کے علم کے برابر کر دیا یہ مخفی جہالت نہیں تو اور

لیکن جب اپنے پیشوں شیطان کی باری آئی تو اس کے علم کے لئے نص نظر آگئی۔

۲۔ ایک چیز جس کا حضور ﷺ کے لئے ثابت کرنا شرک ہو، ہی چیز شیطان کے لئے قرآن کی نص سے ثابت ہو کیا کوئی اسماعیلی (دیوبندی حضرات ابلشت کو امام ابلشت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت کی وجہ سے رضاخانی کہتے ہیں، تو جواب میں ہم انھیں اسماعیل دہلوی کی نسبت سے اسماعیلی کہیں تو انھیں ناراض نہیں ہونا چاہئے) دیوبندی وہابی اس کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟

”حفظ الایمان“ کی کفریہ عبارت شرعی تحانوی سے حضور ﷺ کے علم غیب کے متعلق ایک سوال پوچھا گیا جس کا موصوف نے جواب دیا:

”پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید حجج ہو تو دریافت طلب یا مرہبے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علوم غیریہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی (بچہ) و مجنون (پاگل) بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔“

(حفظ الایمان، صفحہ ۸۔ دیوبند، صفحہ ۱۳)

”اور اگر تمام علوم غیب مراد ہیں اس طرح کہ اس کا ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے۔“ (حفظ الایمان صفحہ ۸۔ دیوبند، صفحہ ۱۴)

شرعی تحانوی نے علم غیب کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ بعض علم غیب اور کل علم غیب کے بارے میں لکھا کہ کل علم غیب حضور ﷺ کے لئے نقلی اور عقلی لحاظ سے محال ہے اور بعض علم غیب کے متعلق لکھا کہ اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔

یہ حضور ﷺ کی شان میں گستاخی ہے کہ ان کے علم اور جانوروں کے علم کا ایک ساتھ ذکر کیا جائے۔ بھلا پاگلوں اور جانوروں کے علم کو حضور ﷺ کے علم سے کیا نسبت۔

کیا ہے۔ اس سے بھی اگر قطع نظر کریں تو لفظ ”ایسا“، تو کلمہ تشییہ کا ہے۔” (حسین احمد ٹانڈوی، مولوی شہاب ثاقب، صفحہ ۱۰۲، کتب خانہ رحیمیہ دیوبند، صفحہ ۲۴۹ ادارہ تحقیقات اہل سنت، لاہور)

تحانوی کے گفر پرمہر

مرتضی حسن در بھنگی اور منظور نعمانی کے مطابق شرعی تحانوی کی عبارت میں لفظ ”ایسا“، تشییہ کے معنی میں نہیں ہے اگر تشییہ کے معنی میں ہوتا تو گفر ہوتا لیکن یہاں تو اس کے معنی ”انتا“، اور ”اس قدر“ کے ہیں۔ اور ٹانڈوی کے نزدیک لفظ ”ایسا“، تشییہ کے معنی میں ہے اگر ”انتا“، کے معنی میں ہوتا تو گفر ہوتا۔ ان تاویلات کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مرتضی حسن در بھنگی اور منظور نعمانی نے لفظ ”ایسا“، کا جو مفہوم معین کیا ہے حسین احمد ٹانڈوی کے فتویٰ کے مطابق شرعی تحانوی کا فرادر جو مفہوم حسین احمد ٹانڈوی نے معین کیا ہے مرتضی حسن در بھنگی اور منظور نعمانی کے فتویٰ کے مطابق شرعی تحانوی کا فرہوجاتا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پھٹکار۔

”حفظ الایمان“ کی عبارت گھلی ہوئی گستاخانہ ہے اور گھلی ہوئی گستاخانہ عبارت کی تاویلیں قطعاً ناقابل التفات ہیں۔ ان کے انور شاہ شمیری دیوبندی نے لکھا کہ،

”اچھا میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں: جو شخص مسیلمہ کہا اور اس کے صاف و صریح دعویٰ نبوت اور قرآن کے مقابلہ میں کہی ہوئی ”تک بندیوں“ میں تاویلیں کرے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اسی طرح کیا ایک گھلے ہوئے بُت پرست کو آپ کہیں گے کہ: ”وَ بُتُّ كُوْجَدَهْ نَهِيْنَ كَرَتَابَكَهْ أُسَّ كُودِيْكَهْ هِيَ مِنَهُ كَبَلَهْ گَرِبَتَاهُ، إِسَ لَنَّ وَهَا كَافِرَنِيْنَ هِيَ۔“؟ کیا یہ گھلی ہوئی زبردستی اور سینہ زوری نہیں ہے؟ جب ہم اپنی آنکھوں سے اُسے بارہا بُت کے سامنے سر بیجھو دیکھتے ہیں تو اس کو کیسے کافرنہ کہیں؟ اور اس کی ”ضم پرسی“، کی تاویلیں اور تو جیہیں کیسے سُنیں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا! اس قسم کی مہمل تاویلیں قطعاً ناقابل التفات ہیں۔“

(اکفارالمُلْحِدِين، صفحہ ۸۳)

یہ ہیں اکابرین دیوبندی کی گفر یہ عبارات جن کی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اُن کی تکفیر کی۔ علمائے دیوبند کو ان عبارات سے توبہ کرنے کی توفیق تو نہیں ہوئی اُلٹا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اکابرین کی عبارات کو خود ساختہ معنی پہنانے۔ دیوبندی اسماعیلی مذہب کی بنیاد اسماعیل دہلوی نے اپنی بدنام زمانہ کتاب ”تفویۃ الایمان“ میں لکھا کہ،

”یہ بات مخفی بے جا ہے کہ ظاہر میں لفظ بے ادبی کا بولے اور اُس سے کچھ اور معنی مرادی لے۔“ (تفویۃ الایمان، صفحہ ۱۲۳)

ایک مغالطہ اور اُس کا رد

یہاں ایک مغالطہ یہ دیا جاتا ہے کہ اکابرین دیوبند نے جو عبارات اپنی کتابوں میں لکھی ہیں وہ صرف اُس زمانہ میں گمراہی کے دفعیہ اور لوگوں کی اصلاح کے لئے لکھی گئی ہیں۔ گستاخی کی نیت سے نہیں لکھی گئی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکیشان میں گستاخی کرنے والے کی نیت اگرچہ گستاخی کی نہ بھی ہو تو بھی اُس کی تکفیر کی جائے گی۔ خود ان کے اپنے مولوی حسین احمد ٹانڈوی نے لکھا، ”جو الفاظ موبهم تحریر حضور سرورِ کائنات علیہ السلام ہوں اگرچہ کہنے والے نے نیت تھارت نہ کی ہو مگر ان سے بھی کہنے والا کافر ہو جاتا ہے اور اس بحث کو بوضاحت تائید حضرت مولانا (رشید احمد گنگوہی) نے مع دلائل کے ذکر فرمایا ہے۔“ (شہاب ثاقب، صفحہ ۵۷)

کلمہ گفر کہنے والے کے قصد وارادہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا

”کلمہ گفر کہنے والے کی تکفیر میں قصد وارادہ کا اعتبار کرنا سراسر غلط ہے۔“

(اکفارالمُلْحِدِين، صفحہ ۱۵۸)

”حاصل یہ ہے کہ جو شخص زبان سے کوئی کلمہ گفر کہتا ہے، خواہ ہنسی مذاق کے طور پر یا کھلی تفریح کے طور پر یہ شخص سب کے نزدیک کافر ہے، اس میں اُس کی نیت یا عقیدہ کا کوئی اعتبار نہیں۔“ (اکفارالمُلْحِدِين، صفحہ ۲۲۵)

صریح گفر کے مرتكب کا حکم

جو شخص صریح گفر کا مرتكب ہو اُس کی تکفیر کی جائے گی اگرچہ وہ اہل قبلہ ہی کیوں نہ ہو۔ ان

کاوبال کس پر ہوگا؟ آخر علماء کام کیا ہے جب وہ گفر اور اسلام میں فرق بھی نہ تباہیں تو اور کیا کریں گے۔” (اشد العذاب علی مسیلمۃ الپنجاب، صفحہ ۲۰)

دیوبندیوں کے امام العصر انور شاہ کشمیری نے لکھا کہ،

”یدن نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہا جائے اور نہ ہی یہ دین ہے کہ کسی کافر کو کافر نہ کہا جائے، اور اُس کے گفر سے چشم پوشی کی جائے۔“ (اکفار المُلحدین صفحہ ۳۶)

رسول اللہ ﷺ پر سب و شتم اور تنقیص کرنے والے کا حکم

”جو مسلمان شخص رسول اللہ ﷺ پر (العیاذ بالله) سب و شتم کرے، یا آپ کو جھوٹا کہے، یا آپ میں عیب نکالے، یا کسی بھی طرح آپ کی توہین و تنقیص کرے وہ کافر ہے اور اُس کی بیوی اُس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔“ (اکفار المُلحدین، صفحہ ۲۱۰)

”یا کسی رسول یا نبی کی تکذیب کرے، یا کسی بھی طرح ان کی تختیر و توہین کرے، مثلاً تختیر کی نیت سے بصورت تغییر ان کا نام لے، یا ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد کسی کی نبوت کو جائز کہے، ایسا شخص کافر ہے۔“ (اکفار المُلحدین، صفحہ ۲۱۳)

گمراہ عقیدہ والے کی تحسین کرنے والے کا حکم

”جس شخص نے کسی گمراہ عقیدہ والے شخص کے قول کی تحسین کی، یا یہ کہا کہ یہ (عام فہموں کی سطح سے بلند ہے) معنوی کلام ہے (هر شخص اس کی مراد نہیں سمجھ سکتا)، یا یہ کہ اُس کلام کے صحیح معنی بھی ہو سکتے ہیں (اور اُس کی کوئی خلاف ظاہر تاویل کی) تو اگر اُس قائل کا وہ قول گفریہ (موجب کفر) ہے تو اُس کی تحسین کرنے والا (یا اس کو صحیح کہنے والا یا تاویل کرنے والا) بھی کافر ہو جائے گا۔“ (اکفار المُلحدین، صفحہ ۲۲۳)

حاصل یہ ہے کہ اکابرین دیوبند خود ایک دوسرے کے فتویٰ کی رو سے دائرة اسلام سے خارج ہیں، تجب یہ ہے کہ خود ان کے اپنے فتویٰ ان کے اپنے خلاف ہیں کہ خود ہی گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں اور خود ہی فتویٰ دیتے ہیں کہ ایسا کہنے والا دائرة اسلام سے خارج ہے خود ہی اپنے بڑوں کی گفریہ عبارت میں بے شکنی تاویلیں کرتے ہیں اور پھر خود یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایسی تاویلیں ناقابل التفات ہیں، خود ہی اپنے بڑوں کی گستاخانہ عبارت سے پر مشتمل کی تحسین کرتے

کے مولوی انور شاہ کشمیری دیوبندی نے لکھا کہ،

”اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اہل قبلہ کو کافر کہا جا سکتا ہے (جب کہ وہ گفر صریح کے مرکب ہوں) اگرچہ وہ قبلہ سے محرف نہ بھی ہوں، نیز یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بسا اوقات قدرًا گفر اختیار کئے بغیر اور تبدیل مذہب کا ارادہ کئے بغیر بھی انسان کافر ہو جاتا ہے (یعنی اگرچہ انسان خود کو مسلمان سمجھتا رہے تب بھی گفر یہ قول یا فعل کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے۔“ (اکفار المُلحدین، صفحہ ۱۱۳)

”اس سے معلوم ہوا کہ اہل قبلہ اگر گفر یہ عقاید و اعمال یا موجبات گفر کو اختیار کریں، تو خود کو مسلمان کہنے اور سمجھنے کے باوجود بھی کافر ہو جاتے ہیں اور ان کی تغیر و اجب ہے۔“ (اکفار المُلحدین، صفحہ ۱۱۵)

”کسی مسلمان کے کافر ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ قصد اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرے، بلکہ گفر یہ عقائد اور اقوال و اعمال کا اختیار کر لینا ہی اسلام سے خارج اور کافر ہو جانے کے لئے کافی ہے، حدیث خوارج میں ”یمر قون“ کا لفظ خاص طور پر اس کو ظاہر کرتا ہے۔“ (اکفار المُلحدین، صفحہ ۱۴۲)

اکابرین دیوبندی کی گفریہ عبارات پر اطلاع کے بعد ان کی تکفیر فرض تھی

امام اہلسنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اکابرین دیوبند کی تکفیر بلا وجہ نہیں کی بلکہ اکابرین دیوبند کی گستاخانہ عبارات پر مطلع ہونے کے بعد ان پر تکفیر فرض ہو چکی تھی، چنانچہ مرتضیٰ حسن در بھنگی دیوبندی کی سینے اس نے لکھا کہ،

”اگر خاصاً صاحب کے نزدیک بعض علمائے دیوبند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے انھیں سمجھا تو خاصاً صاحب پران علمائے دیوبند کی تکفیر فرض تھی اگر وہ ان کو کافرنہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔“ (اشد العذاب علی مسیلمۃ الپنجاب، صفحہ ۱۳)

ایک اور جگہ لکھا کہ، ”جس طرح مسلمان کو کافر کہنا گفر ہے۔ اسی طرح کافر کو مسلمان کہنا بھی گفر ہے۔“ (اشد العذاب علی مسیلمۃ الپنجاب، صفحہ ۲)

ایک اور جگہ لکھا کہ، ”ایسے وقت میں اگر علماء سکوت کریں اور خلقت گمراہ ہو جائے تو اس

گا حکم کفر جاری کرتے ڈریں گے۔ نقیر غفرلہ تعالیٰ نے اس بحث کا قدرے بیان آخر رسالہ ”سبخن السیوح عن کذب عیب مقویح“ میں کیا اور ہاں بھی با آنکہ اس امام و طائفہ پر صرف ایک مسئلہ امکانِ کذب میں اٹھتے (۷۸) وجہ سے لزومِ کفر کا ثبوت دیا گرفتے کفِ اسلام ہی کیا۔” (احمد رضا خان بریلوی، مولانا، مفتی، امام: الكوکبة الشهابیة فی کفریات ابی الوہابیة، صفحہ ۷۰، فتاویٰ رضویہ رضاۓ قادریہ، لاہور)

”حاش للہ! حاش للہ! ہزار ہزار بار حاش للہ میں ہر گز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا، ان مقتدیوں یعنی مدعاوین جدید کو تو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں اگرچہ ان کی بدعت و ضلالت میں شک نہیں اور امام الطائفہ کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل اللہ الٰہ اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے جب تک وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن و حلی نہ ہو جائے اور حکم اسلام کے لئے اصلاً کوئی ضعیف ساختی محمل بھی نہ رہے۔“ (احمد رضا خان بریلوی، مولانا، مفتی، امام: سبخن السیوح عن کذب عیب مقویح، صفحہ ۱۲۰، فتاویٰ رضویہ رضاۓ قادریہ، لاہور)

”میرا (یعنی امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) مسلک یہ ہے کہ وہ (یعنی اسماعیل دہلوی) یزید کی طرح ہے، اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں گے، اور خود کہیں گے نہیں۔“ (مصطفیٰ رضا خان بریلوی، مولانا، مفتی: ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ ۱۱۰ حصہ اول، حامد اینڈ کمپنی، لاہور)

اعلیٰ حضرت پر عبدالجی لکھنؤی کا ایک اور الزام اور اس کا جواب

ابوالحسن عبدالجی لکھنؤی نے اعلیٰ حضرت کو الزام دیتے ہوئے لکھا،

”وَكَانَ لَا يَتَامِعُ وَلَا يَسْمَعُ بِتَأْوِيلِ فِي كَفَرِ مَنْ لَا يَوْقِفُهُ عَلَى عَقِيدَتِهِ وَ تَحْقِيقِهِ أَوْ مِنْ يَدِي فِيهِ انْحرافًا عَنْ مَسْلَكِهِ وَ مَسْلَكِ آبَائِهِ۔“ (نزہہ الخواطر، جلد ۸ صفحہ ۳۹۹)

یعنی، وہ ایسی تاویل گرفتہ نہستا ہے اور نہ سننے دیتا ہے جو اس کے عقیدے اور تحقیق کے خلاف ہوتی ہے یا جس میں اس کے آباء یا اس کے مسلک سے انحراف ہوتا ہے۔ ہونا بھی یہی چاہئے کہ جو تاویل مسلک اہلسنت اور اجماع کے خلاف ہو وہ غیر معتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت پریہ الزام لگانا کہ وہ اپنی تحقیق کے خلاف کسی کی کوئی تاویل نہ سننے

ہیں اور پھر خود یہ بھی لکھتے ہیں کہ کفر یہ قول کی تحسین کرنے والا بھی کافر مرتد ہو جائے گا۔

علمائے امت پرفرض ہے کہ وہ شرعاً کافر پر کفر کا حکم لگائیں

محمد یوسف بنوری نے کتاب ”اکفار المُلْحِدِين“ کا تعارف لکھا ہے وہ لکھتے ہیں، ”اسی لئے علمائے امت پر کچھ بھی ہوا رکیسے ہی طمع کیوں نہ دئے جائیں، رہتی دنیا تک یہ فریضہ عائد ہے اور رہے گا کہ وہ خوف و خطر اور ”لومہ لائم“ (لامات کرنے والوں کی ملامت) کی پرواہ کئے بغیر جو شرعاً ”کافر“ ہے اس پر ”کفر“ کا حکم اور فتویٰ لگائیں..... اور جو بھی دیا فرقہ قرآن و حدیث کی صوص کی رو سے ”اسلام“ سے خارج ہو اس پر اسلام سے خارج اور دین سے بے تعاقن ہونے کا حکم اور فتویٰ لگائیں، اور کسی بھی قیمت پر اس کو مسلمان تسلیم نہ کریں، جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو، یعنی قیامت تک..... نیز علمائے حق جب کسی فرد یا جماعت کی تکفیر کرتے ہیں تو وہ اس کو ”کافر“ نہیں بناتے، ”کافر“ تو وہ خود اپنے اختیار سے گفر یہ عقائد یا اقوال و افعال اختیار کرنے سے بنتا ہے، ایک طرف دیوبندی یہ لکھتے ہیں کہ علماء حق حق جب کسی فرد یا جماعت کی تکفیر کرتے ہیں تو وہ اس کو کافر نہیں بناتے، کافر تو وہ خود اپنے عقائد یا اقوال یا افعال اختیار کرنے سے بنتا ہے، وہ تو صرف اس اس کے گفر کو ظاہر کرتے ہیں، دوسری طرف وہ تو صرف اس کے گفر کو ظاہر کرتے ہیں۔ (اکفار المُلْحِدِين، صفحہ ۳۹۹)

کلمہ گفر اختیار کرنے والے شخص کے بارے میں یہ چند قول فیصل پیش کئے گئے۔ جس کسی کو مزید تسلی و تشقی مقصود ہو وہ دیوبندیوں کے خود ساختہ امام العصر ”انور شاہ کشمیری“ کی کتاب ”اکفار المُلْحِدِين“ کا مطالعہ کرے، حق اور باطل اس شخص پر واضح ہو جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

اعلیٰ حضرت تکفیر کے معاملے میں انتہائی محتاط تھے

باتی رہی یہ بات کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بریلی میں ”گفر ساز مشین“ لگا کر کچی تھی جہاں سے وہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے، تو یہ محض بے جا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تکفیر کے معاملے میں انتہائی محتاط تھے۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں، ”لڑوں و التزام میں فرق ہے اقوال کا کلمہ گفر ہونا اور بات ہے، اور قائل کو کافر مان لینا اور بات ہے۔ ہم احتیاط برتنیں گے سکوت کریں گے، جب تک ضعیف سے ضعیف احتمال ملے

میرا بھی دیوبندیوں کو مخاصنہ مشورہ ہے کہ وہ ضد اور ہٹ دھری سے کام لینے کی بجائے اپنے شیخ الادب دارالعلوم دیوبند مولوی اعزاز علی دیوبندی کی طرح اعلیٰ حضرت کی تصانیف کا مطالعہ کریں اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ کیونکہ بقول اعزاز علی دیوبندی کے اعلیٰ حضرت کے دلائل قرآن و سنت سے متصادم نہیں بلکہ ہم آہنگ ہیں۔

جناب شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ، ”مولانا احمد رضا خان کو تکفیر کے جرم میں مُراکہنا بہت ہی برائے کیونکہ وہ ایک بہت بڑے عالم دین اور بلند پایہ محقق تھے۔ مولانا احمد رضا خان کی رحلت عالم اسلام کا ایک بہت بڑا سامنہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔“

(ماہنامہ ”ہادی“ ذوالحجہ ۱۳۶۹ھ، صفحہ ۲، دیوبند)

علمائے دیوبند کے تکفیری بم

علمائے دیوبند اعلیٰ حضرت کو تو الزم دیتے ہیں کہ انہوں نے بلاوجہ اکابر ہم دیوبند کی تکفیر کی لیکن جب گنگوہ، انیبیتھہ، نانوتہ اور تھانہ بھون کی چار دیواری میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں سانپ سونگہ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو اکابر ہم دیوبند کی تکفیر اس وجہ سے کی ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں حضور ﷺ کی شان میں گستاخانہ عبارات لکھی ہیں۔ لیکن خود اکابر ہم دیوبند نے لوگوں کی تکفیر بلاوجہ کی ہے اس کے باوجود موجودہ ذور کے دیوبندی خاموش ہیں۔

”ایک روز حضرت مولانا خلیل احمد صاحب زیدہ مجده نے دریافت کیا کہ حضرت یہ حافظ لاطافت علی عرف حافظ مینڈ ہوش پوری کیسے شخص تھے حضرت (رشید احمد گنگوہی) نے فرمایا ”پا کافر تھا۔“ (عاشقۃ اللہی میر تھی، مولوی، مؤرخ: تذکرۃ الرشید، جلد ۲۴ صفحہ ۲۴، ادارہ اسلامیات، لاہور) علمائے دیوبند کیا یہ بتانے پسند کریں گے کہ ان کے قطب الارشاد رشید احمد گنگوہی نے ایک حافظ قرآن کو پکا کافر کہا ہے تو کس وجہ سے کہا ہے؟ اس کے بعد ایک واقعہ لکھا ہے جسے پڑھنے کے بعد ان لوگوں کو چلو میں پانی لینا چاہئے اور ڈوب منا چاہئے،

”ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پڑھرے ہوئے تھے سب مرید نیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کیلئے حاضر ہوئیں مگر ایک رنڈی نہیں آئی میاں صاحب بولے کہ فلاں کیوں

تھے، سراسر خلاف واقعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ حضور ﷺ کی شان کے خلاف لکھی جانے والی گستاخانہ عبارت کے حق میں کی جانے والی کسی بھی تاویل کو نہیں سنتے تھے۔ اس لئے کہ ”اس کا کیا خوف، دل میں کیا بر ملا خش گالیاں دیتے ہیں بعض خبائی تو مغلظات سے بھرے ہوئے بیرنگ خطوط صحیح ہیں۔ پھر ایک نہیں اللہ اعلم کتنے آتے ہیں۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، اس سے زیادہ میری ذات پر حملے کریں، میں تو شکر کرتا ہوں کہ اللہ عز وجل نے مجھے دین کی سپر (یعنی ڈھال) بنایا کہ جتنی دیر وہ مجھے کوستے گالیاں دیتے، مُرا بھلا کہتے ہیں اتنی دیر اللہ رسول جلس جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ہیں و تدقیص سے باز رہتے ہیں۔ ادھر سے کبھی اس کے جواب کا وہ بھی نہیں ہوتا، اور نہ کچھ مُر اعلوم ہوتا ہے کہ ہماری عزت اُن کی عزت پر ثار ہی ہونے کے لئے ہے۔“ (ملفوظات، صفحہ ۱۷۴، حامد اینڈ کمپنی، لاہور)

مدعی لاکھ پہ بھاری ہی گواہی تیری

امام اہلسنت امام احمد رضا مخدیث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اکابر ہم دیوبند کی تکفیر عشق رسول کی بناء پر کی ہے اس کا دیوبندیوں کو بھی اقرار ہے، ”میرے (یعنی شرعی تھانوی) دل میں احمد رضا کے لئے بے حدا حرام ہے، وہ ہمیں کافر کہتا ہے لیکن عشق رسول کی بناء پر کہتا ہے کسی اور غرض سے تو نہیں کہتا۔“

(”چنان“ لاہور ۲۳ اپریل ۱۹۶۲ء)

”یا احرقر (شیخ الادب دارالعلوم دیوبند مولوی اعزاز علی) یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اس ذور کے اندر کوئی محقق اور عالم دین ہے تو وہ احمد رضا خان بریلوی ہے کیونکہ میں نے مولانا احمد رضا خان کو، جسے ہم آج تک کافر (جب خود دیوبندی اعلیٰ حضرت کو کافر کہتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت سے کیوں شکوہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری تکفیر کی ہے؟)، بدعتی، مشرک کہتے رہے ہیں، بہت وسیع النظر اور بلند خیال علوہت عالم دین صاحب فکر و نظر پایا۔ آپ کے دلائل قرآن و سنت سے متصادم نہیں بلکہ ہم آہنگ ہیں، لہذا میں آپ کو مشورہ دوں گا اگر آپ کو کوئی مشکل مسئلہ میں کسی قسم کی انجمن در پیش ہو تو آپ بریلی میں جا کر مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی سے تحقیق کریں۔“ (رسالہ ”النور“ شوال المکرم ۱۳۶۴ھ، صفحہ ۴، تہانہ بھون)

اور مادری نسب نامہ، ”مولانا رشید احمد صاحب بن مسماۃ کریم النساء بنت فرید بخش بن غلام قادر بن محمد صالح بن فتح محمد بن تقیٰ محمد بن صالح محمد بن قاضی محمد کبیر الانصاری۔“

(تذکرة الرشید، جلد ۱، صفحہ ۱۳)

رشید احمد گنگوہی کے نتوءے کے مطابق اُس کے اپنے دادا اور نانا کا نام شرکیہ ہے اور انھیں بدلا چاہئے۔

الجھا ہے پاؤں یا رکا زلف دراز میں لو صیاد خود اپنے دام میں آ گیا
”چوں آنکہ درآں کلمات شرکیہ مذکور اندازی شہ خرابی عقیدہ عوام است لہذا
ورآں منوع ہست پس تعلیم ہمانا سم قاتل بعوام سپردون ست کہ صدھا مردم
بغضا عقیدہ شرکیہ بتلا شوند و موجب ہلاکت ایشان گردو۔“ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(فتاویٰ رشیدیہ ”تالیفات رشیدیہ“ صفحہ ۱۴۶)

یعنی، چونکہ اس میں (یعنی درود تاج) الفاظ شرکیہ بھی ہیں اندازی عوام کے عقیدہ کی خرابی کا ہے لہذا اس کا پڑھنا منوع ہے۔ پس درود تاج کی تعلیم دینا اسی طرح ہے کہ عوام کو زہر قاتل دے دیا جائے کیونکہ بہت سے آدمی عقیدہ شرکیہ کے فساد میں بتلا ہو جاتے ہیں اور ان کی ہلاکت کا موجب ہوتا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

درود تاج حضرت علامہ ابو الحسن شازلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لہذا گنگوہی کے نتوئی کی رو سے حضرت علامہ ابو الحسن شازلی رحمۃ اللہ علیہ مشرک خبرہے۔ انالله وانا الیه راجعون ان عبارات کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اکابرین دیوبندی تکفیر کی ذمہ داری اعلیٰ حضرت پر عائد نہیں ہوتی، خود اکابرین دیوبند اس کے ذمہ دار ہیں۔ نہ اکابرین دیوبند ان گھٹیا عبارات کو اپنی کتابوں میں لکھتے اور نہ انھیں یہ دیکھنا پڑتا۔

برادران اہلسنت مسئلہ تکفیر کے بارے میں احراق حق اور اباطل باطل کی نیت سے یہ چند سطور حاضر ہیں۔ سمجھداروں کے لئے یہ چند سطور ہی کافی ہیں اور جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں ان کے لئے دفتر کے دفتر بھی ناکافی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام اہلسنت کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدمذہ ہوں کے غلط پروپیگنڈہ سے حفظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہلسنت کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔

نبی آئی رعدیوں نے جواب دیا ”میاں صاحب ہم نے اُس سے بہتیرہ کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو اُس نے کہا میں بہت گناہ کار ہوں اور بہت روسیاہ ہوں میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں میں زیارت کے قابل نہیں“، میاں صاحب نے کہا نہیں بھی تم اُسے ہمارے پاس ضرور لا نا چنانچہ رندیاں اُسے لے کر آئیں جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا ”بی تم کیوں نہیں آئیں تھیں؟“، اُس نے کہا کہ حضرت روسیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرمناتی ہوں۔ میاں صاحب بولے ”بی تم شرمناتی کیوں ہو کرنے والا کون اور کرانے والا کون (معاذ اللہ!) وہ تو ہی ہے“، رندی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا ”لاحول ولا قوہ“، اگرچہ میں روسیاہ و گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشتاب بھی نہیں کرتی۔ میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرگوں رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی۔“ (تذکرة الرشید، جلد ۲ صفحہ ۲۴۲)

ان لوگوں سے تورنڈی اچھی نکلی کہ باوجود بدکار ہونے کے اللہ تعالیٰ کی توبیہ برداشت نہ کر سکی اور ایسے پیر کے منہ پر ایسا طما نچہ مارا کہ دیوبندیوں کے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے لیکن یہ زارے موحد ہیں کہ پورے عالم اسلام کو مشرک کہتے پھرتے ہیں لیکن ادھر ان کی توحید میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا بلکہ رشید احمد گنگوہی ضامن علی جلال آبادی کے بارے میں کہتا ہے کہ،

”ضامن علی جلال آبادی تو توحیدی میں غرق تھے۔“ (تذکرة الرشید جلد ۲ صفحہ ۲۴۲)

شرفعی تھانوی نے لڑکیوں کے لئے ایک کتاب لکھی ہے، جس کا نام انھوں نے ”بہشت زیور“ رکھا ہے۔ اس کتاب میں جہاں اور ”مسائل“ کا بیان ہے وہاں ”گفر اور شرک کی باقوں کا بیان“ کے عنوان کے تحت شرعی تھانوی نے شرکیہ ناموں کی فہرست بھی لکھی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، ”سہرا باندھنا، چوٹی رکھنا، بدھی پہنانا، فقیر بنانا، علی بخش، حسین بخش، عبداللہی وغیرہ نام رکھنا۔“ (شرعی تھانوی، مولوی: بہشتی زیور حصہ اول صفحہ ۳۶ تاج کمپنی لمیڈ)

سوال: نبی بخش، پیر بخش، سالار بخش، مدار بخش، ایسے ناموں کا رکھنا کیسا ہے؟ جواب: ایسے نام مہوم شرک ہیں اُن کو بدلا چاہئے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فتاویٰ رشیدیہ ”تالیفات رشیدیہ“ صفحہ ۷۸)

شرکیہ ناموں کی فہرست تو ملاحظہ فرمائی۔ اب ذرا رشید احمد گنگوہی کا پدری نسب نامہ ملاحظہ فرمائیے: ”مولانا رشید احمد بن مولانا ہدایت احمد بن قاضی پیر بخش بن قاضی غلام حسن بن قاضی غلام علی بن قاضی علی اکبر بن قاضی محمد اسلام الانصاری۔“

کیا امام احمد رضا نے بدعا نے کو فروغ دیا ہے؟

کوئی ڈور تھا کہ علوم دینیہ میں خاندانِ دہلوی کا پورے ہندوستان میں کوئی بھی ہم پلہ نہ تھا اور یہ خاندان عقائدِ اہلسنت پر سختی سے کار بند تھا۔ اس خاندان میں شاہ عبدالرجیم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالغنی محدث دہلوی، شاہ عبدال قادر محدث دہلوی جیسے علماء نے جنم لیا جن پرستیت کونا تھا۔ لیکن شومی قسمت اسی دہلوی خاندان کے ایک فرد اسماعیل دہلوی بن شاہ عبدالغنی محدث دہلوی نے اہلسنت سے اعتزال کر کے ایک نئی راہ اختیار کی اور ہندوستان میں وہا بیت کا پرچار شروع کر دیا اور ”تقویۃ الایمان“ نامی بدنام زمانہ کتاب لکھ دی۔ اس کتاب میں اسماعیل دہلوی نے انبیاء اور اولیاء کی شان میں خوب گستاخیاں کیں۔ یہ کتاب دراصل بدنام زمانہ گستاخ رسول محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب ”کتاب التوحید“ کا خلاصہ تھی۔ اس کتاب میں اسماعیل دہلوی نے انبیاء اور اولیاء کو بُوں کی صاف میں لاکھڑا کیا اسی وجہ سے اس کتاب کو انگریزوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کو چھپوا کر پورے ہندوستان میں مفت تقسیم کیا۔ اس کتاب کی اشاعت سے پورے ہندوستان میں بالپل جمع گئی۔ علمائے اہلسنت میدان میں آگئے اور ہر طرف سے اس کتاب کی تردید شروع ہو گئی۔ جن علماء نے کتاب ”تقویۃ الایمان“ کی تردید کی اُن میں اسماعیل دہلوی کی چچا زاد بھائی ”مولانا مخصوص اللہ دہلوی“ بھی تھے، حضرت مولانا نے ”تقویۃ الایمان“ کو ”لغویۃ الایمان“ قرار دیا۔ ۱۲۴۰ھ کو دہلی کی جامع مسجد میں مجاہد تحریک آزادی حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی سے مناظرہ کیا اور اس کو چاروں شانے چت کر دیا۔ اسماعیل دہلوی نے عقائدِ باطلہ سے توبہ کرنے کی بجائے اُن کی اشاعت جاری رکھی اور بالآخر بالا کوٹ کے مقام پر پٹھانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اسماعیل دہلوی کے مرکمی میں ملنے کے بعد اُس کے مشن کو رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد اپیٹھوی، قاسم نانوتی اور شرفعلی تھانوی نے جاری رکھا، انگریز حکومت سے مابانہ و ظالماً اور قطب العالم، جیتہ الاسلام اور حکیم الامم جیسے خطابات حاصل کئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نازک دور میں دین کی تجدید کے لئے امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو

بیدا فرمایا۔ آپ نے ان فتنوں کی سرکوبی فرمائی اور علمائے حریم شریفین سے فتاویٰ حاصل کر کے شاتر میں رسول نوں کے فرار کے راستے مسدود کر دیئے۔ فرزندان شیخ نجدی کو چاہئے تو یہ تھا اپنے عقائدِ باطلہ سے توبہ کرتے۔ لیکن توبہ تو ان کے نصیب میں نہ تھی ”الٹا چور کو تو اس کو ڈانٹے“، کا مصدق امام اہلسنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف ایک مجاز قائم کر لیا اور ان کو بعدت اور بدعا نات کا موحد مشہور کر دیا۔ اس بات کا اندازہ حسین احمد ظاندھوی کی کتاب ”الشہاب الثاقب علی المسترق الکاذب“ سے کیا جاسکتا ہے جس میں حسین احمد ظاندھوی نے اعلیٰ حضرت کو ۲۴۰ گالیاں دی ہیں جن میں سے چند گالیاں محدث والتفیر، مجدد اصلیل، دجال بریلوی، محدث والد جالین، دجال الحبیب دین، اعلیٰ درجہ کا دجال، مخرب دین، بریلوی شیطان، رزمیں الشسب اور بدعا نات شیطانی میں بتلا ہیں۔ حالانکہ جس میت کو حدر رکن نہ دیا گیا ہو اُس کا جنازہ نہ پڑھانے کی بدعت کے موحد خود ظاندھوی صاحب ہیں۔ جھوٹے بندے کی علامت ہوتی ہے کہ جب اُس کے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کے لئے دلیل نہ ہوتا گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، کچھ یہی معاملہ ظاندھوی کے ساتھ ہجھی ہے۔ (فضل دیوبندی عمار عثمانی نے ”ماہنامہ تخلی“ میں ان گالیوں کو مہدّ ب گالیاں کہا ہے) گویا کسی کو گالیاں دینا دیوبندی تہذیب میں مہدّ ب کام ہے۔ اگر یہ مہدّ ب گالیاں ہیں تو ظاندھوی کی غیر مہدّ ب گالیاں کیسی ہوں گی؟

اسی طرح ابو الحسن عبدالحی لکھنؤی نے اعلیٰ حضرت کے متعلق یوں لکھا ہے،

”وَ كَانَ يَنْتَصِرُ لِلرَّسُومِ وَ الْبَدْعِ الشَّائِعَةِ وَ قَدْ أَلْفَ فِيهَا رِسَالَاتٍ

مستقلة“ (نونہ الخوارط جلد ۸ صفحہ ۴۰)

یعنی، وہ مروجہ بدعا نات کے حامی تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے کئی ایک مستقل رسائل شائع کئے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس قدرشدت سے بدعا نات کا رہ امام اہلسنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے آپ کے ہم صوروں میں اس کی نظریہ نہیں ملتی، ایک ایک مسئلہ میں دلائل کے انبار لگادیئے ہیں۔ ”فتاویٰ رشیدیہ“ کی طرح نہیں کہ فلاں حرام، فلاں ناجائز اور دلیل؟ دارد۔ ذیل میں کچھ بدعا نات اور اعلیٰ حضرت کی طرف سے ان کا رد پیش کئے جا رہے ہیں،

مسجدہ تعظیمی

اس مسئلہ میں اعلیٰ حضرت اور الہست کو دیوبندیوں نے سب سے زیادہ بدنام کیا ہوا ہے کہ الہست قبروں کو سجدے کرتے ہیں۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ایک ہم عصر خواجہ حسن نظامی نے ”مرشد کو سجدہ تعظیمی“ کے عنوان سے ایک رسالہ لکھا۔ اعلیٰ حضرت نے اُس کے جواب میں قرآن کی دو (۲) آیات، ایک چالیس (۴۰) احادیث اور ایک سو پچاس (۱۵۰) فقہی صوص سے اُس کا رد فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں،

”مسلمان! اے مسلمان! شریعت مصطفوی کے تابع فرمان! یقین جان کے سجدہ حضرت عزت عز جلالہ کے سوا کسی کے لئے نہیں، اُس کے غیر کو سجدہ عبادت تو یقیناً اجملاً شرک مہین اور گفر مبین اور سجدہ تجیت حرام و گناہ کبیرہ بالیقین اور اُس کے گفر ہونے میں اختلاف علمائے دین۔“ (احمدرضا خان بریلوی، مولانا، مفتی، امام: الزبدۃ الزکیۃ فی تحریم سجود التحیۃ، فتاویٰ رضویہ جلد ۹ صفحہ ۶۶۲ رضافاؤ ندیشن لاہور)

مزید فرماتے ہیں،

”مسلمان دیکھیں ہم نے حدیث سے ثابت کر دیا کہ سجدہ تجیت حرام ہے۔ خود بکری مُسلم اور نہایت معتمد تُب فقہ سے ثابت کر دیا کہ سجدہ تجیت سُور کھانے سے بھی بدتر حرام ہے۔“ (الزبدۃ الزکیۃ فی تحریم سجود التحیۃ، فتاویٰ رضویہ جلد ۹ صفحہ ۱۳۲)

مزار کا طواف

سجدہ تعظیمی کے بعد مزار کا طواف ایسا مسئلہ ہے جس میں نجدیوں نے الہست کو بدنام کرنے کی ناپاک سمعی کی ہے اور الہست کے لئے قبر پرست، قبوری، قبر پجوے وغیرہ القابات استعمال کرتے ہیں اور آئے روز مسلمانوں کو شرک کہتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام الہست امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف ملاحظہ فرمائیں،

”مزار کا طواف کہ بہ نیت تعظیم کیا جائے ناجائز ہے کہ تعظیم بالطواف مخصوص بخانہ کعبہ ہے۔ مزار کو بوسہ دینا نہ چاہئے۔ علماء اس میں مختلف ہیں۔ اور بہتر بچنا، اور اس میں ادب زیادہ

ہے۔ اور آستانہ بوئی میں حرج نہیں۔“ (احمدرضا خان بریلوی، مولانا، مفتی، امام: بریق المنار بشموع المزار، فتاویٰ رضویہ جلد ۹ صفحہ ۲۸۵ رضافاؤ ندیشن لاہور)
” بلاشبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے، اور بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے اور احוט منع ہے۔“ (احمدرضا خان بریلوی، مولانا، مفتی، امام: احکام شریعت حصہ سوم)

میت کے گھر دعوت

میت کے گھر دعوت کے بارے میں امام الہست امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں،
” سبحان اللہ! اے مسلمان! یہ پوچھتا ہے جائز ہے کیا؟ یہ پوچھ کہ یہ ناپاک رسماں کتنے فتح اور شدید گناہوں، سخت و شنیع خرابیوں پر مشتمل ہے۔“ (احمدرضا خان بریلوی، مولانا، مفتی، امام: جلی الصوت لنہیٰ الدعوت امام موت، فتاویٰ رضویہ جلد ۹ صفحہ ۶۶۲ رضافاؤ ندیشن لاہور)
” اولاً: یہ دعوت خود ناجائز و بدعت شنیعہ قبیحہ ہے۔

ثانیاً: غالباً رثا میں کوئی تیم اور بچہ نابغہ ہوتا ہے، یا اور رثا موجود نہیں ہوتے، نہ ان سے اس کا اذن لیا جاتا ہے، جب تو یہ امر سخت حرام شدید مقصمن ہوتا ہے۔“ (جلی الصوت لنہیٰ الدعوت امام موت، فتاویٰ رضویہ جلد ۹ صفحہ ۶۶۴)

” ثالثاً: یہ عورتیں کہ جمع ہوتی ہیں اور افعال مکرہ کرتی ہیں، مثلاً چلا کر رونا پینا، بناوٹ سے منڈھانکنا، الی غیر ذلك۔ اور یہ سب نیاحت ہے اور نیاحت حرام ہے۔ ایسے جمع کے لئے میت کے عریزوں اور دوستوں کو بھی جائز نہیں کہ کھانا بھیجیں کہ گناہ کی امداد ہوگی۔“ (جلی الصوت لنہیٰ الدعوت امام موت، فتاویٰ رضویہ جلد ۹ صفحہ ۶۶۵)

رابعاً: اکثر لوگوں کو اس رسم شنیع کے باعث اپنی طاقت سے زیادہ ضیافت کرنی پڑتی ہے یہاں تک کہ میت والے بیچارے اپنے غم کو کھول کر اس آفت میں بنتا ہوتے ہیں کہ اس میلے کے لئے کھانا، پان چھالیا کہاں سے لائیں اور بارہا ضرورت قرض لینے کی پڑتی ہے۔“ (جلی الصوت لنہیٰ الدعوت امام موت، فتاویٰ رضویہ جلد ۹ صفحہ ۶۶۶)

کا ڈانڈا پکڑتے ہیں۔ (السنیۃ الانیقہ فی فتاوی افrique، صفحہ ۶۰)

بچ کے سر پر کسی ولی کے نام کی چوٹی رکھنا

بعض جاہل عورتوں میں دستور ہے کہ بچے کے سر پر بعض اولیائے کرام کے نام کی چوٹی رکھتی ہیں اور اس کی کچھ میعاد مرکرتی ہیں اس میعاد تک لکنے ہی بار بچے کا سرمونڈے وہ چوٹی برقرار رکھتی ہیں۔ پھر میعاد گذار کر مزار پر لیجا کروہ بال اُتارتی ہیں تو یہ ضرور محض بے اصل و بدعت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم (السنیۃ الانیقہ فی فتاوی افrique، صفحہ ۸۳)

قبر پر عود لو بان سلگانا

عود، لو بان وغیرہ کوئی چیز نفس قبر پر رکھ کر جلانے سے احتراز چاہیے اگرچہ کسی برتن میں ہو:
لما فيه من التفاؤل القبيح بطلع الدخان من على القبر والعياذ بالله
یعنی، اس لئے کہ قبر کے اوپر سے دھوکاں اٹھنے میں بدفائی ہے اللہ کی پناہ۔

(السنیۃ الانیقہ فی فتاوی افrique صفحہ ۸۴)

قبر پر چراغ جلانا

”قبر پر خواہ کہیں حاجت سے زیادہ اور بے منفعت روشنی کے لغوا سراف ہو منوع ہے۔ یونہی خود قبر پر چراغ رکھنا کہ سقف قبر حق میت ہے اور اس میں اُس کی اذیت اور جوان مخدورات سے پاک ہو وہاں روشنی منوع نہیں۔“ (احمدرضا خان بریلوی، مولانا، مفتی، امام: عرفان شریعت حصہ دوم صفحہ ۵ شیعی برادری لاہور)

قبر پر نماز پڑھنا

”قبر پر نماز پڑھنا حرام۔ قبر کی طرف نماز پڑھنا حرام۔ اور مسلمان کی قبر پر قدم رکھنا حرام۔ قبروں پر مسجد بنانا یا زراغت وغیرہ کرنا حرام۔“ (عرفان شریعت حصہ سوم صفحہ ۷۴)

نکاح کے وقت ڈھول باجے کا حکم

باجے جو شادی میں راجح و معمول ہیں سب ناجائز حرام ہیں۔ (ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ اول ص ۴۵)

بلند آواز سے قرآن کی تلاوت

حلقة باندھ کر سب (قرآن) پڑھیں تو ضرور حسن ہے مگر اس حالت میں لازم ہو گا کہ سب آہستہ پڑھیں قرآن مجید میں منازعت کہ سب اپنی اپنی بآواز پڑھیں اور ایک دوسرے کی نہ سُسیں ناجائز حرام ہے اللہ عزوجل جنم فرماتا ہے:

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لِعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ﴾

جب قرآن پڑھا جائے تو اُسے کان لگا کر سنو اور بالکل چپ رہو اس امید پر کہ رحمت کئے جاؤ۔ (احمدرضا خان بریلوی، مولانا، مفتی، امام: السنیۃ الانیقہ فی فتاوی افrique، صفحہ ۴، مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی)

جوتا پہنے ہوئے کھانا کھانے کا حکم

کھاتے وقت جوتے اُتارے جوتا پہنے کھانا اگر اس عذر سے ہو کہ زمین پر بیٹھا کھا رہا ہے اور فرش نہیں جب تو صرف ایک سنت مستحبہ کا ترک ہے اس کے لئے بہتر یہی تھا کہ جوتا اُتارے اور اگر میز پر کھانا ہے اور یہ کرسی پر جوتا پہنے تو یہ وضع خاص نصاریٰ کی ہے اور اس سے دور بھاگے اور رسول اللہ ﷺ کا وہ ارشاد یاد کرے:

من تشبه بقوم فهو منهم
جو کسی قوم سے مشابہت پیدا کرے وہ انہیں میں سے ہے۔ (السنیۃ الانیقہ فی فتاوی افrique، صفحہ ۹۲)

درود شریف کی جگہ مہمل الفاظ لکھنا

سوال میں جو عبارت ”دلیل الاحسان“ سے نقل کی اُس میں اور خود عبارت سوال میں ”ص“ کی جگہ ”صلعم“ لکھا ہے اور یہ سخت ناجائز ہے یہ بلاعوام تو عوام صدی کے بڑے بڑے اکابر فنوں کھلانے والوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی ”صلعم“ لکھتا ہے کوئی فقط ”ص“ کوئی ”علیہ الصلوٰۃ والسلام“ کے بد لے ”عم“ یا ”ءم“۔ (اس بدعت کے موجہ دیوبندی وہابی ہیں جس کا اندازہ اُن کی تسبیب کے مطالعہ سے کیا جا سکتا ہے) ایک ذرہ سیاہی یا ایک انگل کاغذ یا ایک سیند و وقت بچانے کے لئے کسی کیسی عظیم برکات سے دور پڑتے اور محرومی و بے نصیبی

محرم کور ویاں لٹانا بیہودہ رسم ہے

ان بیہودہ رسموں نے جاہلنا اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا پھر و بال ابتداع کا جوش ہوا کہ خیرات کو بھی بطور خیرات نہ کھا، ریاء و تقاض علاشی ہوتا ہے پھر وہ بھی یہ نہیں کہ سیدھی طرح حتا جوں کو دیں بلکہ چھتوں پر بیٹھ کر پھینکیں گے، روٹیاں زمین پر گردہ ہی ہیں، رزقِ الٰہی کی بے ادبی ہوتی ہے، پیسے ریتے میں گر کر غائب ہوتے ہیں، مال کی اضاعت ہورہی ہے گنرnam تو ہو گیا کہ فلاں صاحب لنگر لٹار ہے ہیں۔ (اعالیٰ الافادة فی تعزیۃ الہندو بیان شہادۃ، فتاویٰ رضویہ جلد ۴ صفحہ ۲۱۲)

اذان میں اضافہ کا حکم

شیعہ روضہ نے اذان میں کچھ کلمات اپنی طرف سے اضافہ کرنے لئے ہیں اُن کے بارے میں فرماتے ہیں، ”مجھے بتقی اللہ عزوجلٰن یہاں یہ طاہر کرنا ہے کہ یہ کلمات جو روضہ حال نے سینیوں کی ایڈار سانی کو اذان میں بڑھائے ہیں اُن کے مذہب کے بھی خلاف ہیں (۱) اُن کی حدیث و فقہ کی رو سے بھی اذان ایک محدود عبارت محدود کلمات کا نام ہے جن میں یہ ناپاک لفظ داخل نہیں۔ (۲) اُن کے نزدیک بھی اس اذان مقول میں اور عبارت بڑھانا ناجائز و گناہ اور اپنے دل سے ایک نئی شریعت نکالتا ہے۔ (۳) اُن کے پیشواؤ خود لکھ گئے کہ ان زیادتیوں کی موجب ایک ملعون قوم ہے جنہیں امامیہ بھی کافر جانتے ہیں۔“ (الادلة الطاعنة في اذان المناعنة، فتاویٰ رضویہ جلد ۲ صفحہ ۲۳)

”وَكَيْهُو مَا مِيَہَا كَشْحَنْ صَدْوَقَ كَيْسِي صَافَ شَهَادَتَ دَرَرَہَ ہے کہ اذان کے شروع میں ہی وہی اخبارہ کلے ہیں اور اُن پر یہ زیادتیاں مفوضہ کی تراشی ہوئی ہیں اور صاف کہتا ہے لَعَنْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ پَرَاللَّهِ لَعْنَتَ كَرَے۔“ (الادلة الطاعنة في اذان المناعنة، فتاویٰ رضویہ جلد ۲ صفحہ ۴۷۷)

”اب کہ یقیناً ثابت کہ کلمہ مذکورہ خود اُن کے مذہب میں بھی نہیں، نہ صاحبِ شرع اسے اس کی روایت نہ حضرات آئمہ اطہار سے اس کی اجازت، نہ اُن کے پیشواؤں کے نزدیک اذان کی یہ ترتیب و کیفیت، بلکہ خود انہی کی معترکتابوں میں تصریح کہ اذان میں اتنا بڑھانا بھی حرام ہے کہ ”أَشْهَدُ أَنَّ عَلَيْاً وَلَيَ اللَّهُ“، اور یہ زیادتیاں اس فرقہ ملعونہ کی نکالی ہوئی ہیں۔ جو باتفاق اہلسنت و شیعہ کافر ہیں۔“ (الادلة الطاعنة في اذان المناعنة، ص ۴۷۹)

تعزیہ کا حکم

عرض: تعزیہ میں اہم و لعب سمجھ کر جائے تو کیسا ہے؟
ارشاد: نہیں چاہیے۔ ناجائز کام میں جس طرح جان و مال سے مدد کرے گا یوں سواد بڑھا کر بھی مددگار ہو گا۔ ناجائز بات کا تماشا کیھنا بھی ناجائز ہے۔ بندر نچانا حرام ہے اس کا تماشا کیھنا بھی حرام، ”در منtar“ و ”حاشیہ علامہ طحطاوی“ میں ان مسائل کی تصریح ہے۔ آجکل لوگ ان سے عافل ہیں۔ (ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ ۲۱۵ حصہ دوم)

”مگر جہاں نے اصل جائز کو بالکل نیست و نابود کر کے صدھا خرافات وہ تراشیں کہ شریعت مطہرہ سے الامان الامان کی صدائیں آئیں، اول تنفس تعزیہ میں روضہ مبارک کی نقل مخوذ نہ رہی، ہر جگہ نئی نئی تراش نئی گھڑت جسے اس نقل سے علاقہ نہ نسبت، پھر کسی میں پریاں، کسی میں بُراق، کسی میں اور بیہودہ طھراق، پھر کوچہ بکوچہ و دشت بدشت، اشاعت غم کے لئے اُن کا گشت، اور اُن کی سینہ زنی اور ماتم سازشی کی شورا فنی، کوئی اُن تصویریوں کو جھک جھک کر سلام کر رہا ہے، کوئی مشغول طواف، کوئی سجدہ میں گرا ہے، کوئی اُن مائیہ بدعات کو معاذ اللہ معاذ اللہ جلوہ گا و حضرت امام علی جدہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سمجھ کراس ابرک پتی سے مرادیں مانگتا منتیں مانتا ہے، حاجت رواجا تا ہے، پھر باقی تماشے، بابج، تاشے، مردوں عورتوں کا راتوں کو میل، اور اس طرح کے بیہودہ کھیل ان سب پر طرہ ہیں۔“ (اعالیٰ الافادة فی تعزیۃ الہندو بیان شہادۃ فتاویٰ رضویہ جلد ۴ صفحہ ۵۱۲)

”مگر لنگر لٹانا جسے کہتے ہیں کہ لوگ چھتوں پر بیٹھ کر روٹیاں پھینکتے ہیں، کچھ ہاتھوں میں جاتی ہیں اور کچھ زمین پر گرتی ہیں، کچھ پاؤں کے نیچے ہیں، یہ منع ہے کہ اس میں رزقِ الٰہی کی بے تقطیسی ہے، بہت علماء نے تو روپوں پیسوں کا لٹانا جس طرح دولہا دونہ کی نچھا ور میں معمول ہے منع فرمایا کہ روپے پیسے کو اللہ عزوجلٰن نے خلق کی حاجت روائی کے لئے بنایا ہے تو اسے پھینکنا نہیں چاہئے روٹی کا پھینکنا تو خخت بیہودہ ہے۔“ (اعالیٰ الافادة فی تعزیۃ الہندو بیان شہادۃ، فتاویٰ رضویہ جلد ۴ صفحہ ۵۲۱)

”اب کہ تعزیہ اس طریقہ نامرضیہ کا نام ہے قطعاً بدعۃ و ناجائز حرام ہے۔“ (اعالیٰ الافادة

فی تعزیۃ الہندو بیان شہادۃ، فتاویٰ رضویہ جلد ۴ صفحہ ۵۱۳)

انور کہ واجب یا قریب یا واجب ہے، مزارات اولیاء یا دیگر قبور کی زیارت کو عورتوں کا جانا با اتباع ”غینیۃ“، علامہ محقق ابراہیم حلبی ہرگز پسند نہیں کرتا، خصوصاً اس طوفان بے تمیزی رقص مزامیر و سرور میں جو آج کل بھال نے اعراس طبیہ میں برپا کر رکھا ہے اُس کی شرکت تو میں عوام رجال کو بھی پسند نہیں رکھتا نہ کہ وہ جن کو الجنه رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمدی خوانی بالحان خوش پر عورتوں کے سامنے ممانعت فرمائیں نازک شیشیاں فرمایا۔ (جمل التورفی نبھی النساء عن زیارة القبور فتاویٰ رضویہ جلد ۹ صفحہ ۵۱)

عرض: حضور اجیمیر میں خواجہ صاحب کے مزار پر عورتوں کا جانا جائز ہے کہ نہیں؟
ارشاد: ”غینیۃ“ میں ہے یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کا مزار پر جانا جائز ہے کہ نہیں، بلکہ یہ پوچھو کوہ اُس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور کس قدر صاحب قبر کی جانب سے جس وقت وہ گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہو جاتی ہے اور جب تک واپس آتی ہے ملائکہ لعنت کرتے رہتے ہیں سوائے روضہ انور کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں۔

(ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ ۲۳۷ حصہ دوم)

ایام و بامیں بکرے کی کھال دفن کرنا

ایام و بامیں بعض جگہ دستور ہے کہ بکرے کے دائبے کان میں سورہ لیلیں شریف اور بائیں میں سورہ مزل شریف پڑھ کر دم کرتے ہیں اور شہر کے ارد گرد پھرا کر چورا ہے پرذخ کرتے ہیں اور اُس کی کھال دوسرا زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ یہ کیسا ہے؟

ارشاد: ”کھال دفن کرنا حرام ہے کہ اضاعت مال ہے اور چورا ہے پر لے جا کر ذبح کرنا جہالت اور بیکار بات ہے اللہ کے نام پر ذبح کر کے مسا کین کو تقسیم کرو۔“

(ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ ۲۶۰ حصہ سوم)

مردے کے ساتھ مٹھائی لے جانا

مردے کے ساتھ مٹھائی قبرستان میں چیونیٹوں کے ڈالنے کے لئے لے جانا کیسا ہے؟
ارشاد: ”ساتھ لے جانا روثی کا جس طرح علمائے کرام نے منع فرمایا ہے ویسے ہی مٹھائی ہے اور چیونیٹوں کو اس نیت سے ڈالنا کہ میت کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ محض جہالت ہے اور یہ نیت نہ

بزرگانِ دین کی تصاویر کا حکم

”ترکِ اہانت بوجہ تصویر ہی ہو مگر تصویر کی خاص تعظیم مقصود نہ ہو جیسے جہاں زینت و آرائش کے خیال سے دیواروں پر لگاتے ہیں یہ حرام ہے اور مانع ملائکہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے خود صورت ہی کا اکرام مقصود ہو اگرچہ اسے معظم و قبل احترام نہ مانا۔“ (احمدرضا خان بریلوی، مولانا، مفتی، امام: فتاویٰ رضویہ جلد ۴ صفحہ ۴۰-۴۶ رضافاؤنڈیشن لاہور)

”صرف ترکِ اہانت نہ ہو بلکہ بالقصد تصویر کی عظمت و حرمت کرنا، اُسے معظم دینی سمجھنا، اسے تعظیماً بوسہ دینا، سر پر رکھنا، آنکھوں سے لگانا، اُس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا اُس کے لائے جانے پر قیام کرنا، اسے دیکھ کر سر جھکانا وغیرہ ذکر افعال تعظیم بجالانا یہ سب انجیث اور سب قطعاً یقیناً اجماعاً اشد حرام، سخت کبیرہ ملعونہ ہے اور صریح کھلی ہٹ پرستی سے ایک قدم ہی پچھے ہے۔“ (العطایا القدیر فی حکم التصویر جلد ۲ صفحہ ۷۰)

عرض: بزرگانِ دین کی تصاویر بطور تبرک لینا کیسا ہے؟

ارشاد: کعبہ معظمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام و حضرت مریم علیہ السلام کی تصاویر ہی تھیں کہ یہ متبرک ہیں، ناجائز فعل تھا۔ حضور اقدس انے خود دست مبارک سے انہیں دھو دیا۔ (ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ ۲۱۵ حصہ دوم)

مزارات پر عورتوں کی حاضری

”عورتوں کا مقابر اولیاء و مزارات عوام دونوں پر جانے کی ممانعت ہے۔“ (بریق المنار بشموع المزار فتاویٰ رضویہ جلد ۹ صفحہ ۵۳۶)

”عورتوں کو زیارت قبور منع ہے۔ حدیث میں ہے ”لَعْنَ اللَّهِ زَائِرَاتُ الْقُبُوْرِ“ اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو قبور کی زیارت کو جائیں۔ مجاور مددوں کو ہونا چاہیے۔ عورت مجاور بن کر بیٹھے اور آنے جانے والوں سے اختلاط کرے یہ سخت بد ہے۔ عورت کو گوشہ نشینی کا حکم ہے، نہ یوں مددوں کے ساتھ اختلاط کا جس میں بعض اوقات مددوں کے ساتھ تھنہ ای بھی ہوگی، اور یہ حرام ہے۔“ (بریق المنار بشموع المزار فتاویٰ رضویہ جلد ۹ صفحہ ۵۳۷)

”میں اُس رخصت کو جو ”بجر الرائق“ میں لکھی ہے نظر بحالات نساء سوائے حاضری روضہ

میں احکامِ شریعت اور دیگر کتابتیں بھی شامل ہیں اور نیز یہ کہ مولانا کی زیر سر پرستی ایک ماہوار رسالہ "الرضا" بریلی سے لکھتا ہے جس کی چند قسطیں بغور و خوض دیکھی ہیں، جس میں بلند پایہ مضمایں شائع ہوتے ہیں۔" (ماہنامہ "ندوہ" اکتوبر ۱۹۶۱ء صفحہ ۱۷)

معین الدین ندوی نے لکھا کہ، "مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی مرحوم اس دور کے صاحب علم و نظر علامہ مصطفیٰ میں سے تھے، دینی علوم خصوصاً فقہ و حدیث پر ان کی نظر و سعی اور گھری تھی۔ مولانا نے جس وقت نظر اور تحقیق کے ساتھ علماء کے استفسارات کے جواب تحریر فرمائے ہیں، اُس سے اُن کی جامعیت، علمی بصیرت، قرآنی استحضار، دینیت اور طبائی کا پورا پورا اندازہ ہوتا ہے۔ اُن کے عالمانہ تحقیقات فتاوےٰ مخالف و موافق ہر طبقہ کے مطالعہ کے لائق ہیں۔"

(معین الدین ندوی، ادیب: ماہنامہ "معارف" اعظم گڑھ ستمبر ۱۹۴۹ء)

مولوی محمد یوسف بنوری کے والد زکریا بنوری نے لکھا کہ،
”اگر اللہ تعالیٰ ہندوستان میں احمد رضا بریلوی کو پیدا نہ فرماتا تو ہندوستان میں
حفیت ختم ہو جاتی۔“

برادران الہلسنت دیوبندیوں کی ان مسلمہ شخصیات کے ان تاثرات کے بعد ابو الحسین عبدالحکیم بخاری اور دیوبندیوں کے کھدر پوش شیخ الاسلام حسین احمد ناندھوی کی تحریروں کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ناموں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے القابات لگوواتے ہیں اور ساری زندگی اُن کی اس کام میں گزر جاتی ہے کہ ”صرف ہم لوگ ہی حق پر ہیں باقی ہمارے علاوہ سب گمراہ ہیں۔“ اور پھر بد دیانتیوں کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ کیا اہل حق کا یہی شیوه و شعار ہے؟

امام الہلسنت امام احمد رضا حجّۃ ثبریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بدعاۃ کارڈ اس شدت سے فرمایا ہے کہ آپ کے معصروں میں اُس کی مثال نہیں ملتی۔ احراقِ حق کے لئے یہ چند اقوال پیش کئے گئے۔ دانشمندوں کے لئے اتنا ہی کافی ہے، مگر جن کی آنکھوں پر تعصّب کی پیاس بندھی ہوئی ہیں اُن کے لئے دلائل کے دفتر بھی ناکافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام الہلسنت کو صراطِ مُتَقِیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس تحریر کو بھٹکے ہوؤں کے لئے نافع بنائے۔ آمین
واعلیٰنا الابلاغ الْمُبِين

بھی ہوتے بھی مسائیں صالحین پر تقیم کرنا بہتر ہے (پھر فرمایا) مکان پر جس قدر چاہیں خیرات کریں۔ قبرستان میں آکثر دیکھا گیا ہے کہ اناج تقسیم ہوتے وقت پچھے اور عورتیں وغیرہ غل مچاتے اور مسلمانوں کی قبروں پر دوڑتے پھرتے ہیں۔" (ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ ۲۶۴ حصہ سوم)

پیر سے پرده اور بے پرده بیعت کا حکم

(۱) پیر سے پرده ہے یا نہیں؟ (۲) ایک پیر صاحب عورتوں سے بے جا ب کے حلقہ کرتے ہیں، اور حلقہ کے بیچ میں بزرگ صاحب بیٹھتے ہیں، تو جایسی دیتے ہیں کہ عورتیں بے ہوش ہو جاتی ہیں، اچھاتی کو دیتی ہیں اور اُن کی آواز مکان سے باہر دُور سائی دیتی ہے۔ ایسی بیعت ہونا کیسا ہے؟
(۱) پیر سے پرده واجب ہے جبکہ محروم نہ ہو (۲) یہ صورت مخصوص خلاف شرع و حیا ہے ایسے پیر سے بیعت نہ چاہئے۔" (احکامِ شریعت حصہ دوم صفحہ ۴۰)

مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

اعلیٰ حضرت نے خود بدعتی تھے اور نہیں انہوں نے بدعاۃ کو فروغ دیا۔ اس بات کا اعتراض دیوبندیوں کو بھی ہے، سید سلیمان ندوی نے لکھا کہ، ”اس احقر نے جناب مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی مرحوم کی چند کتابیں دیکھیں تو میری آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئیں، حیران رہ گیا کہ یہ واقعی مولانا بریلوی صاحب مرحوم کی ہیں، جن کے متعلق گل تک یہ سنا تھا کہ وہ صرف اہل بدعت کے ترجمان ہیں اور صرف چند فرعی مسائل تک محدود ہیں، مگر آج پتا چلا کہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ اہل بدعت کے نقیب نہیں بلکہ یہ تعالیٰ اسلام کے اسکال اور شاہکار نظر آتے ہیں۔ جس قدر مولانا مرحوم کی تحریروں میں گہرائی پائی جاتی ہے، اس قدر گہرائی تو میرے استاد مکرم جناب مولانا شلی نعمانی صاحب اور ضرط حکیم الامت مولانا شیخ الفہیض علامہ شیر احمد عثمانی کی کتابوں کے اندر بھی نہیں جس قدر مولانا بریلوی کی تحریروں میں ہے۔“ (سید سلیمان ندوی، مولوی: ماہنامہ "ندوہ" ۱۹۳۱ء صفحہ ۱۷)

شلی نعمانی نے لکھا کہ، ”مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی جو اپنے عقائد میں سخت تفتخرد ہیں، لیکن اُس کے باوجود مولانا صاحب کا علمی شجر اس قدر بلند درجہ کا ہے کہ اس دور کے تمام عالم دین اس کے سامنے پر کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اس احقر نے بھی آپ کی متعدد کتابیں جن

http://t.me/Tehqiqat